

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

فیوم جمع

# کتاب دلائل شریف

اوراد فتحیہ <sup>معہ</sup> و <sup>عظم</sup> اعظم <sup>عظمی</sup> عظمیٰ

محمد اسلم نقشبندی مجددی

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى  
مُحَمَّدٍ وَآلِهِ  
وَسَلِّمْ

Alif

قیوم

الکتاب

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

# درود شریف

اور ادا فتحیہ و السلام

کتاب ہذا میں اللہ جل شانہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شانِ عظمت کی فصیلت بیان کرتے ہوئے مجموعہ درود شریف جمع اور ادا فتحیہ دیا گیا ہے جس میں آپ کیلئے بے شمار فیوض و برکات اور شکلاء پریشانیوں کا حل درج کیا گیا ہے امید ہے کہ یہ کتاب آپ کیلئے مفید ثابت ہوگی

محمد اسلم نقشبندی مجددی

مشتاق بک کارنر الفضل مارکیٹ اردو بازار لاہور

نام کتاب \_\_\_\_\_ گنجینہ درود سرمدی  
 مرتب \_\_\_\_\_ محمد اسلم نقشبندی مجددی  
 اشاعت \_\_\_\_\_ اکتوبر ۱۹۹۸ء  
 زیر اہتمام \_\_\_\_\_ مشتاق احمد  
 مطبع \_\_\_\_\_ امدنی پریس لاپور  
 ناشر \_\_\_\_\_ مشتاق بک کار لاپور  
 تصحیح \_\_\_\_\_ حافظ قاری نجم احمد  
 ہر جلد \_\_\_\_\_ 170 روپے

ساکھٹ، عظیم پبلشرز اردو بازار لاہور

# فہرست

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	
۷۵	دُرودِ لکھی	۱۵	۱۰	۱	اذقَاتِ دُرودِ شَرِیفِ
۸۳	دُرودِ استغاثہ	۱۶	۱۷	۲	آدابِ دُرودِ شَرِیفِ
۸۵	دُرودِ ہزارہ	۱۷	۱۸	۳	حکایاتِ دُرودِ شَرِیفِ
۸۶	دُرودِ رُوحی	۱۸	۲۲	۴	فضائلِ دُرودِ شَرِیفِ
۸۹	دُرودِ دوامی	۱۹	۲۵	۵	دُرودِ شَرِیفِ قرآن کی روشنی میں
۹۰	دُرودِ تنجینا	۲۰	۳۱	۶	دُرودِ شَرِیفِ احادیث کی روشنی میں
۹۲	دُرودِ قرآنی	۲۱	۶۰	۷	دُرودِ ابراہیمی
۹۳	دُرودِ ناریہ	۲۲	۶۲	۸	دُرودِ زہرِ متول
۹۵	دُرودِ قلبی	۲۳	۶۳	۹	دُرودِ خمسہ
۹۷	دُرودِ اول	۲۴	۶۵	۱۰	دُرودِ اول و آخر
۹۹	دُرودِ نور	۲۵	۶۶	۱۱	دُرودِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
۱۰۰	دُرودِ طیب	۲۶	۶۷	۱۲	دُرودِ حصولِ رحمت
۱۰۲	دُرودِ کوشر	۲۷	۶۸	۱۳	دُرودِ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم
۱۰۴	دُرودِ اعلیٰ	۲۸	۶۹	۱۴	دُرودِ تاج

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان	صفحہ	
۱۳۶	دُرودِ مجتبیٰ	۴۵	۱۰۵	دُرودِ شافعی	۲۹
۱۳۶	دُرودِ تعلق	۴۶	۱۰۶	دُرودِ غوثیہ کلاں	۳۰
۱۳۷	دُرودِ کشف	۴۷	۱۰۸	دُرودِ غوثیہ نورد	۳۱
۱۳۸	دُرودِ حل المشکلات	۴۸	۱۱۰	دُرودِ محمدی	۳۲
۱۳۹	دُرودِ عالی	۴۹	۱۱۱	دُرودِ حضور کی زیارت کا نسخہ	۳۳
۱۴۰	دُرودِ کمالیہ	۵۰	۱۱۱	دُرودِ دیدارِ نبیؐ	۳۴
۱۴۱	دُرودِ قطب	۵۱	۱۱۱	دُرودِ نمبر ۲	۳۵
۱۴۲	دُرودِ نوری	۵۲	۱۱۲	دُرودِ نمبر ۳	۳۶
۱۴۳	دُرودِ نقشبندیہ	۵۳	۱۱۳	دُرودِ نمبر ۴	۳۷
۱۴۴	دُرودِ عابدین	۵۴	۱۱۳	دُرودِ رضویہ	۳۸
۱۴۵	دُرودِ افضل	۵۵	۱۱۴	دُرودِ شفا کے قلوب	۳۹
۱۴۶	دُرودِ شافی	۵۶	۱۱۶	دُرودِ مقدس	۴۰
۱۴۷	دُرودِ نجاتِ وبا	۵۷	۱۳۳	دُرودِ خضریٰ	۴۱
۱۴۸	دُرودِ حُبِّ رسولِ صلی اللہ علیہ وسلم	۵۸	"	دُرودِ نعمتِ عظمیٰ	۴۲
۱۴۸	دُرودِ محمود	۵۹	۱۳۴	دُرودِ امامِ بوسیری	۴۳
۱۴۹	دُرودِ ثمرات	۶۰	۱۳۵	دُرودِ مستجاب الدعوت	۴۴

ردیف	عنوان	ردیف	عنوان	ردیف
۱۶۵	درود حبیبی	۷۷	۱۵۰	درود انعام
۱۶۶	درود الفاتح	۷۸	۱۵۱	درود تریاق امراض
۱۶۷	درود اعتماس	۷۹	۱۵۲	درود اعزاز
۱۶۹	درود الزاہدین	۸۰	۱۵۳	درود سید احمد بدوی
۱۷۰	درود فوائد کثیره	۸۱	۱۵۵	درود وسیله
۱۷۲	درود الصادقین	۸۲	۱۵۶	درود نصرت
۱۷۴	درود مکین	۸۳	۱۵۷	درود شفاعت
۱۷۵	درود واقع شاعران	۸۴	۱۵۸	درود ابن کثیر
۱۷۶	درود نعم البدل صدقہ	۸۵	۱۵۹	درود مشاہدہ
۱۷۷	درود العاشقین	۸۶	۱۵۹	درود برکات کثیره
۱۷۸	درود نجات	۸۷	۱۶۰	درود مقرب
۱۷۹	درود اہل بیت	۸۸	۱۶۱	درود ثواب
۱۸۰	درود سید المرسلین	۸۹	۱۶۲	درود حضور
۱۸۱	درود سرور کائنات	۹۰	۱۶۳	درود حصول عزت
۱۸۳	درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم	۹۱	۱۶۴	درود دعا و دوا
۱۸۴	بم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا درود	۹۲	۱۶۵	درود چشمہ

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	
۱۹۸	دُرودِ اکبر	۱۰۵	۱۸۵	دُرودِ رحمت و برکت	۹۳
۲۳۲	دُرودِ منیر	۱۰۶	۱۸۴	دُرودِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم	۹۴
۲۳۶	دُرودِ رفاعی	۱۰۷	۱۸۶	بمختصر سرور کونین کا دُرود پاک	۹۵
۲۴۰	دُرودِ فاضل	۱۰۸	۱۸۷	دُرودِ حبیبِ خدا	۹۶
۲۴۸	دُرودِ جمعہ	۱۰۹	۱۸۸	دُرودِ الطاہرین	۹۷
۲۵۴	دُرودِ مستغاث	۱۱۰	۱۸۹	دُرودِ نورِ القیامیہ	۹۸
۲۸۹	دُرودِ کبریت	۱۱۱	۱۹۱	دُرودِ مدنی	۹۹
۳۱۳	دُرودِ صد ہزاری	۱۱۲	۱۹۲	دُرودِ حفاظت	۱۰۰
۳۳۴	استادِ اسماءِ را عظم	۱۱۳	۱۹۳	دُرودِ بلندی درجات	۱۰۱
۳۵۰	اورادِ نوحیہ	۱۱۴	۱۹۴	دُرودِ مکرم	۱۰۲
۴۰۸	خصائصِ عظمیٰ صلی اللہ علیہ وسلم	۱۱۵	۱۹۵	دُرودِ مکاشفہ	۱۰۳
			۱۹۷	دُرودِ جمالی	۱۰۴





تَالِغِ الْعُلَمَاءِ بِحَمْدِهِ

كَتَبْتُ لِدَعْوَةِ حَمْدِهِ

حَسَنَاتٍ مِمَّنْ خَصَّاهُ

عَلِيٍّ وَالْوَالِدِ

# بِخُضْرٍ رَوَّيْنِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرُقُّ عَيْنِي

وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءَ

خُلِقْتَ مَبْرَأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ

كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ

میری آنکھوں نے کبھی آپ سے زیادہ کوئی حسین نہیں دیکھا

عورتوں نے آپ سے زیادہ کوئی صاحبِ جمال نہیں جنا

آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا ہے ،

جیسے آپ اپنی مرضی کے مطابق پیدا کیے گئے ہوں

# اوقات درود پاک

درود پاک ایک ایسا بابرکت وظیفہ ہے کہ جو کسی بھی وقت پڑھا جاسکتا ہے یعنی درود شریف پڑھنے کی نہ تو کوئی تعداد معین ہے اور نہ ہی وقت اسے جب دل چاہے اور جس قدر چاہے پڑھے۔ دن کو پڑھے یا رات کو پڑھے نماز سے قبل پڑھے یا نماز ادا کرنے کے بعد بطور وظیفہ اس کا ورد کرے، کھڑے ہو کر پڑھے یا بیٹھ کر پڑھے اس کے پڑھنے میں وقت اور تعداد کی کوئی قید نہیں ہے۔ مگر اکثر مقامات اور اوقات میں درود شریف پڑھنا بہت زیادہ فضیلت کا باعث ہے۔

حسب ذیل اوقات میں درود شریف پڑھنا بے پناہ فضیلت رکھتا ہے بلکہ ذیل میں دیئے گئے بعض اوقات میں تو درود شریف پڑھنا انتہائی لازم ہے۔

① نماز کے آخری قعدہ میں التحيات کے بعد درود پاک

پڑھنا لازم ہے۔

② نماز پنجگانہ کے بعد دعا سے پہلے درود شریف پڑھنا

مستحب ہے۔

③ جمعۃ المبارک کے پہلے اور دوسرے خطبے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنا ضروری ہے۔

④ نماز خوف اور نماز کسوف کے خطبات میں بھی درود شریف پڑھنا ضروری ہے۔

⑤ نماز جنازہ میں دوسری تکبیر کے بعد حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام پر درود پاک پڑھنا لازم ہے۔

⑥ نماز استسقاء کے خطبے میں بھی درود شریف ضرور پڑھنا چاہئے۔

⑦ نماز عیدین کے خطبوں میں بھی درود شریف پڑھنا بہت ضروری ہے۔

⑧ دعا کے شروع اور اختتام پر درود شریف پڑھنا دعا کی قبولیت کی ضمانت ہے۔

⑨ سووار کے دن صبح کے وقت درود شریف پڑھنا بہت ہی فیوض و برکات کا باعث ہے اس لیے کہ اسی دن حضور

نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ جمعرات کو نماز عشاء کی ادائیگی کے بعد یا نماز تہجد کی ادائیگی

کے بعد درود شریف کثرت سے پڑھنا مستحب ہے۔

⑩ جمعہ کے روز نماز جمعہ سے پہلے یا نماز جمعہ کے بعد درود

شرف بہت ہی افضل ہے۔  
 ۱۲ ہفتہ کے دن بکثرت درود شریف پڑھنا جنت میں داخلے کی ضمانت ہے۔

۱۳ اتوار کے دن نماز فجر کے بعد مسجد میں بیٹھ کر درود پاک پڑھنا ایمان کی سلامتی میں مضبوطی کا باعث ہے۔

۱۴ ہر روز صبح اور شام کے اوقات میں درود شریف پڑھنا رحمت باری تعالیٰ کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔

۱۵ مسجد میں داخلے سے قبل اور باہر نکلنے سے پہلے درود شریف پڑھنا باعث برکت ہے۔

۱۶ مسجد میں بیٹھ کر جماعت کھڑی ہونے کے انتظار کے وقت میں درود شریف پڑھنا بہت بہتر ہے۔

۱۷ ختم قرآن مجید کے وقت درود پاک پڑھنا فضیلت کا باعث ہے۔

۱۸ رمضان المبارک میں ہر روز درود شریف پڑھنا بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔

۱۹ حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا اسم پاک لکھتے وقت سنتے وقت اور لیتے وقت درود شریف پڑھنا لازم ہے۔

۲۰ حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے روزنہ مبارک کی زیارت کے وقت بھی درود پاک پڑھنا افضل ہے۔

۲۱ مدینہ طیبہ اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہونے

- وقت درود پاک پڑھنا بہتر ہے۔
- ۲۲) حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بابرکت آثار دیکھتے وقت بھی درود شریف ہی پڑھنا چاہیے۔
- ۲۳) کسی بھولی ہوئی چیز کی تلاش کے وقت درود شریف پڑھنے سے بھولی ہوئی چیز یاد آجاتی ہے۔
- ۲۴) رات کو سونے سے پیشتر درود پاک پڑھنا حفاظت و سلامتی کا باعث ہے۔
- ۲۵) سوکر اٹھتے وقت درود پاک پڑھنا عمر میں برکت کا باعث ہے۔
- ۲۶) گھر میں داخلے کے وقت درود پاک پڑھنا گھر میں خیر و برکت کا باعث ہوتا ہے۔
- ۲۷) مقام پیدر اور مقام احد کو دیکھتے وقت درود پاک پڑھنا بہت اچھا ہے۔
- ۲۸) قبرستان میں داخلے کے وقت درود شریف پڑھنا بخشش و مغفرت کا باعث ہوتا ہے۔
- ۲۹) وعظ و تدریس کے وقت درود شریف پڑھنا علم میں زیادتی کی علامت ہے۔
- ۳۰) وضو کرتے وقت اور وضو کے بعد تیمم کرنے کے بعد غسل جنابت کرنے کے بعد درود شریف پڑھنا مستحب ہے۔

- ۳۱) تنگی، سختی اور مصیبت کے وقت درود شریف پڑھنے سے راحت حاصل ہوتی ہے۔
- ۳۲) شبِ برات میں نصف شب کے وقت استغفار کے بعد درود شریف پڑھنا قبولیت دعا کا باعث ہے۔
- ۳۳) نکاح کے موقع پر درود پاک پڑھنا میاں بیوی کے مابین محبت اور خیر و برکت کا باعث ہوتا ہے۔
- ۳۴) ریاض الحجۃ اور اصحابِ صفہ کے چوتھے پر درود پاک پڑھنا فیوض و برکات کا حامل ہے۔
- ۳۵) مصافحہ اور معالقتہ کرتے وقت درود پاک پڑھنا محبت کی علامت ہے۔
- ۳۶) کسی مجلس سے اٹھ کر جاتے وقت درود پاک پڑھنا عزت و شرف کا باعث ہے۔
- ۳۷) عرفات، منیٰ اور مزدلفہ میں قیام کے وقت بھی درود شریف پڑھنا بہت بہتر ہے۔
- ۳۸) حج کے دوران بیشتر وقت درود شریف پڑھنا بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔
- ۳۹) غربت و افلاس کی حالت میں درود شریف پڑھتے رہنے سے بفضلِ باری تعالیٰ غربت دور ہو جاتی ہے۔
- ۴۰) حجرِ اسود کو بوسہ دیتے وقت درود پاک پڑھنا نہایت مستحب ہے۔

- ۴۱ صفا و مروہ پر درود پاک پڑھنا خیر و برکت کا باعث ہے۔
- ۴۲ اگر نیند نہ آتی ہو تو اس وقت درود شریف پڑھنا دلی سکون  
ہوتا ہے اور نیند آ جاتی ہے۔
- ۴۳ کسی مجلس یا اجتماع میں کلام کا آغاز کرنے سے پہلے درود  
شریف پڑھنا خیر و برکت کی علامت ہے۔
- ۴۴ توبہ کرتے وقت درود پاک کا پڑھنا توبہ کی قبولیت کا باعث ہے
- ۴۵ ذکر و اذکار کی مجلس کے آغاز اور اختتام پر درود شریف  
پڑھنا اہل مجلس کی دلی حاجات کی قبولیت کی علامت ہے
- ۴۶ طواف و دُاع کے بعد خانہ کعبہ سے نکلتے وقت بھی درود  
پاک کا ورد کرنا بہتر ہے۔
- ۴۷ جمعۃ الوداع کے دن درود پاک پڑھنا سعادت و فلاح کا باعث ہے
- ۴۸ ہمت سے خلاصی حاصل کرنے کے لیے کثرت سے درود  
شریف پڑھنا بہت بہتر ہے۔
- ۴۹ وصیت لکھتے وقت درود پاک پڑھنا خاتمہ بالخیر کی علامت ہے
- ۵۰ ہر اچھے کام کا آغاز کرتے وقت درود شریف پڑھنا خیر و برکت  
کا باعث ہے۔
- ۵۱ شب قدر میں کثرت سے درود شریف پڑھنا خروی معاملات  
میں نجات و خلاصی کا باعث ہے
- ۵۲ علم کی اشاعت کے وقت درود شریف سے آغاز کرنا چاہیے
- ۵۳ صاف شفاف پانی کو بہتے ہوئے دیکھ کر درود شریف پڑھنا



شکر کی علامت ہے۔

سفر کے وقت اور سفر کی حالت میں کثرت سے درود شریف (۵۴)

پڑھنا سفر میں خیر و عافیت کا باعث ہے۔

صحت یابی کے لیے بیماری کے وقت درود شریف پڑھنا (۵۵)

اکسیر ہے۔

قرآن مجید کے حفظ کرنے کی دعائیں بھی درود شریف پڑھنا (۵۶)

حافظے کی مضبوطی اور دعا کی قبولیت کا باعث ہے۔

خوشبو سونگھنے وقت درود شریف پڑھنا مستحب ہے۔ (۵۷)

کسی شے کے اچھا لگنے کے وقت درود شریف پڑھنا افضل (۵۸)

ہے۔

تجارت یا کاروبار شروع کرتے وقت درود شریف پڑھنے (۵۹)

سے کاروبار میں خیر و برکت پیدا ہوتی ہے اور رزق میں زیادتی

ہوتی ہے۔

دوست احباب اور عزیزوں، رشتہ داروں سے ملاقات (۶۰)

کے وقت درود شریف پڑھنا یا بھی محبت میں اضافہ کا باعث ہے

کسی دعوت میں شمولیت کے وقت درود پاک کا پڑھنا عزت و (۶۱)

شرف اور برکت کا باعث ہے۔

مردے کو قبر میں اتارتے وقت درود شریف کا پڑھنا مردے (۶۲)

کے لیے قبر میں راحت کا باعث ہے۔



# آدابِ درود شریف

- ① جب اسم مبارک لکھے، صلوٰۃ و سلام بھی لکھے یعنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا لکھے۔ اس میں کوتاہی نہ کرے۔ صرف ص یا صلعم پر اکتفا نہ کرے
- ② ایک شخص حدیث شریف لکھتا تھا اور بسبب سُجُل کاغذ کے نام مبارک کے ساتھ درود شریف نہ لکھتا تھا۔ اس کے سیدھے ہاتھ کو مرض آکلہ عارض ہوا یعنی ہاتھ اُس کا گل گیا۔
- ③ شیخ ابن حجر مکی نے نقل کیا ہے کہ ایک شخص صرف صلی اللہ علیہ پر اکتفا کرتا تھا، وسلم نہ لکھتا تھا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو خواب میں ارشاد فرمایا۔ تو اپنے آپ کو چالیس نیکیوں سے کیوں محروم رکھتا ہے۔ یعنی وسلم میں چار حروف ہیں۔ ہر حرف پر ایک نیکی اور ہر نیکی پر دس گنا ثواب۔ لہذا وسلم میں چالیس نیکیاں ہوئیں۔
- ④ درود شریف پڑھنے والے کو مناسب ہے کہ بدن اور کپڑا پاک و صاف رکھے۔
- ⑤ آپ کے نام مبارک سے پہلے سیدنا بڑھا دینا مستحب اور افضل ہے۔ در مختار

## حکایات درود شریف

- ① مواہب لدنیہ میں تفسیر قشیری سے نقل کیا ہے کہ قیامت میں کسی مومن کی نیکیاں کم وزن ہو جاویں گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پرچہ سرانگشت کے برابر نکال کر میزان میں رکھ دیں گے جس سے نیکیوں کا پلہ وزنی ہو جائے گا۔ وہ مومن کہے گا۔ میرے مال باپ آپ پر قربان ہو جاویں۔ آپ کون ہیں؟ آپ کی صورت اور سیرت کیسی اچھی ہے۔ آپ فرمادیں گے۔ میں تیرا نبی ہوں اور یہ درود ہے جو تو نے مجھ پر پڑھا تھا۔ میں نے تیری حاجت کے وقت اس کو ادا کر دیا۔
- ② حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہ جلیل القدر تابعی اور خلیفہ راشد ہیں، شام سے مدینہ منورہ کو خاص قاصد بھیجتے تھے کہ ان کی طرف سے روضہ شریف پر حاضر ہو کر درود وسلام عرض کرے۔
- ③ روضۃ الاحباب میں امام اسماعیل بن ابراہیم مزنی سے جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے شاگردوں میں ہیں نقل کیا ہے کہ میں نے امام شافعی

کو بعد افعال کے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیا معاملہ فرمایا۔ وہ بے مجھے بخش دیا اور حکم دیا کہ مجھ کو تعظیم و احترام کے ساتھ بہشت میں لے جاویں اور یہ سب برکت ایک درود کی ہے جس کو میں پڑھا کرتا تھا۔ میں نے پوچھا۔ وہ کون سا درود ہے؟ فرمایا

يٰۤاَيُّهَا  
 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا ذَكَرَ الذَّاكِرُونَ  
 وَكَلِّمْنَا غَفْلًا عَنِ ذِكْرِهَا الْغَافِلُونَ

④ منہاج الحیات میں ابن فاکہانی کتاب فخر منیر سے نقل کیا ہے کہ ایک بزرگ شیخ صالح موسیٰ ضریر (نابینا) تھے انہوں نے اپنا گزرا ہوا قصہ مجھ سے نقل کیا کہ ایک جہاز ڈوبنے لگا اور میں اس میں موجود تھا۔ اس وقت مجھ کو غنودگی سی ہوئی۔ اس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو درود شریف تعلیم فرما کر ارشاد فرمایا جہاز ولے اس کو ایک ہزار بار پڑھیں۔ ہنوز تین سو بار پر نوبت نہ پہنچی تھی کہ جہاز نے نجات پائی۔

⑤ حضرت عبید اللہ بن عمر قراریہ سے نقل ہے کہ ایک کاتب میرا ہمراہ تھا وہ مر گیا۔ میں نے اس کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ پاک نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ کہا مجھے بخش دیا۔ میں نے سبب

پوچھا۔ کہا۔ میری عادت تھی جب نام پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کتاب میں لکھتا تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بڑھاتا۔ خدائے تعالیٰ نے مجھ کو ایسا کچھ دیا کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل پر گزرا۔

④ دلائل الخیرات کی وجہ تالیف مشہور ہے کہ مؤلف کو سفر میں وحنو کے لیے پانی کی ضرورت تھی اور ڈول رسی کے نہ ہونے سے پریشان تھے ایک لڑکی نے یہ حال دیکھ کر دریافت کیا اور کنویں کے اندر تھوک دیا۔ پانی کنارے تک ابل آیا۔ مؤلف نے حیران ہو کر اس کی وجہ پوچھی۔ اس نے کہا یہ برکت درود شریف کی ہے جس کے بعد اٹھوں نے یہ کتاب دلائل الخیرات تالیف کی۔

⑤ شیخ زروق رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے کہ مؤلف دلائل الخیرات کی قبر سے خوشبو مشک و عنبر کی آتی ہے اور یہ سب درود شریف کی برکت ہے

⑥ ایک معتد دوست نے راقم سے ایک خوشنویس لکھنؤ کی حکایت بیان کی کہ ان کی عادت تھی کہ جب صبح کے وقت کتابت شروع کرتا تو اول ایک بار درود شریف ایک بیاض پر جو اسی غرض سے بنائی تھی لکھ لیتے اس کے بعد کام شروع کرتے۔ جب ان کے انتقال

کا وقت آیا تو غلبہ فکرِ آخرت سے خوف زدہ ہو کر کہنے لگے کہ دیکھئے وہاں جا کر کیا ہوتا ہے۔ ایک مجذوب آنکھے اور کہنے لگے بابا کیوں گھبراتا ہے وہ بیاض سرکار میں پیش ہے اور اس پر صادق بن رہے ہیں۔

⑨ مولانا فیض الحسن صاحب سہارنپوری مرحوم کے داماد نے مجھ سے بیان کیا کہ جس مکان میں مولوی صاحب کا انتقال ہوا وہاں ایک مہینے تک خوشبو عطر کی آتی رہی۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اس کو بیان کیا۔ ارشاد فرمایا۔ یہ برکت درود شریف کی ہے مولوی صاحب کا معمول تھا کہ ہر شب جمعہ کو بیدار رہ کر درود شریف کا شغل فرماتے۔

⑩ ابو زرہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو خواب میں دیکھا کہ آسمان میں فرشتوں کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے اس سے سبب حصول اس درجے کا پوچھا اس نے کہا۔ میں نے دس لاکھ حدیثیں لکھی ہیں جب نام مبارک آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آتا میں درود لکھتا تھا۔ اس سبب سے مجھے یہ درجہ ملا۔

⑪ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور حکایت ہے کہ ان کو بعد انتقال کے کسی نے خواب میں دیکھا اور تعفرت کی وجہ پوچھی۔

انہوں نے فرمایا کہ یہ درود شریف کی برکت ہے جو میں شبِ جمعہ کو پڑھا کرتا تھا۔

۱۲

شیخ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ ایک صالح کو کسی

نے خواب میں دیکھا۔ اس سے حال پوچھا۔ اس نے کہا کہ خدا

تعالیٰ نے مجھ پر رحم کیا اور مجھے بخش دیا اور جنت میں داخل کیا۔

سید پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ فرشتوں نے میرے گناہ اور

میرے درود کو شمار کیا۔ سو شمارِ درود کا زیادہ نکلا۔ حق تعالیٰ نے

فرمایا۔ اتنا بس ہے۔ اس کا حساب مت کرو اور اس کو بہشت میں لے

جاؤ۔

۱۳

شیخ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک مرد صالح نے

معمول مقرر کیا تھا۔ کہ ہر رات کو سوتے وقت درود بعدِ معین

پڑھا کرتا تھا۔ ایک رات خواب میں دیکھا کہ جناب رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے اور تمام گھر اس کا

روشن ہو گیا۔ آپ نے فرمایا۔ وہ منہ لاؤ جو درود بہت پڑھتا ہے

کہ میں اُسے بوسہ دوں۔ اس شخص نے شرم کی وجہ سے رخسارہ

سامنے کر دیا۔ آپ نے اس کے رخسار پر بوسہ دیا۔ بعد اس کے

وہ بیدار ہو گیا تو سارے گھر میں مشک کی خوشبو باقی رہی۔

۱۴


شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج النبوۃ میں لکھا ہے کہ جب حضرت خواجہ علیہا السلام پیدا ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اُن پر ہاتھ بڑھانا چاہا۔ ملائکہ نے کہا۔ صبر کرو جب تک نکاح نہ ہو جائے اور مہرا دانہ کر دو۔ انہوں نے کہا مہر کیا ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تین بار درود شریف پڑھنا۔ اور ایک روایت میں بیس بار آیا ہے۔



صَلَّى اللهُ عَلَى حَبِيبِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ  
وَاصْحَابِهِ وَسَلَّمَ



# فضائل درود شریف



# درود شریف

## قرآن مجید کی روشنی میں

حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجنے کا حکم، اور اس کی فضیلت کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ

عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

”ترجمہ: ”بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو! تم بھی درود و سلام آپ پر بھیجا کرو۔“

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کا رنگ انار کے دانوں کی طرح انتہائی خوشی و مسرت سے کھل گیا۔ اور ارشاد فرمایا:

”مجھے مبارک باد پیش کرو کہ آج مجھ پر وہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے جو میرے نزدیک دنیا و ما فیہا میں سے ہر چیز سے بہتر ہے۔“

اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مذکورہ بالا آیت تلاوت فرمائی۔ میں نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ خوشخبری سنتے ہی عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو یہ نعمت مبارک ہو۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مبارک باد پیش کرتے رہے۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! آپ اس آیت مبارکہ کی وضاحت فرمائیں۔ تاکہ ہم لوگ اس کی حقیقت سے آگاہ ہو جائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

”تم لوگوں نے مجھ سے پوچھ لیا ہے۔ اگر تم لوگ مجھ سے

دریافت نہ کرتے تو میں کسی کو نہ بتاتا۔ اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے مقرر فرما دیئے ہیں کہ جب کوئی مسلمان جہاں کہیں مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یہ دونوں فرشتے اس کے لیے کہتے ہیں۔ "اللہ اسے تیری طفیل بنائے" ان دونوں فرشتوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ اپنے تمام فرشتوں سمیت آمین کہتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص میرا نام سن کہ درود پاک نہیں پڑھتا تو وہ دونوں فرشتے اس کے لیے کہتے ہیں "اللہ اس کو معاف نہ کرے" اس وقت بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے آمین کہتے ہیں۔"

"روایات میں آتا ہے کہ جب حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام پر درود پاک بھیجنے کی آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! آپ کی بارگاہ اقدس میں کس طرح درود و سلام پیش کیا جائے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس طرح درود و سلام بھیجا کرو۔"

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ

وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ

مَجِيدٌ ۝ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ

وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى

إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ

حَمِيدٌ مَجِيدٌ ۝

مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے درود  
پاک کو مخصوص کرنے میں حکمت یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام  
نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں حضور علیہ الصلوٰۃ

والسلام کی اُمت کے لیے کلمات خیر حاصل کیے  
اور وعاد مانگی۔

”وَأَجْعَلْ لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ۝“

تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبولیت کا مشرف بننا اور حضرت

ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا۔ اے ابراہیم! تم چاہتے ہو کہ میرے حبیب  
علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اُمت تمہارے ذکر خیر سے اپنی زبانوں کو مشرف  
کرتی رہا کرے۔ اور میں بھی اس ذکر خیر میں شریک رہوں اور فرشتے بھی  
اس میں مشغول رہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ  
تیرا کرم و عنایت ہے۔ چنانچہ خداوند تعالیٰ نے تمام اُمت محمدیہ کو حضرت  
ابراہیم علیہ السلام پر درود پاک بھیجنے پر مامور فرما دیا۔

حضرت علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ کہ جب حضرت ابراہیم  
علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں  
دعا فرمائی، آپ دعا فرماتے جاتے تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام  
حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت سارہ علیہا السلام اور حضرت بی بی ہاجرہ  
سلام اللہ علیہا آمین کہتے جاتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اس خواہش  
کا اظہار فرمایا کہ اُمت محمدیہ کے تمام مشائخ جب کعبۃ الشریکی زیارت کیلئے  
آئیں، تو درود نفل شکرانہ ادا کریں، تو اسے اللہ تعالیٰ نے ان کا شفیع مقرر فرمایا۔

حضرت اسمعیل علیہ السلام نے دعائانگی اے اللہ! امت محمدیہ میں سے جو بوڑھا ہو کر خانہ کعبہ میں آئے اور تیری عبادت کرے تو تو اس کو بخش دے۔ سب نے آمین کہا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے دعائانگی یا اللہ! امت محمدیہ کا جو نوجوان خانہ کعبہ میں آکر تیری عبادت کرے تو تو اس کو بخش! سب نے آمین کہا حضرت بی بی سارہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی عورتوں اور حضرت بی بی ہاجرہ نے امت محمدیہ کی کنیزوں کے حق میں دعائانگی کہ اے اللہ! جب وہ تیرے گھر کی زیارت کے لیے آئیں اور اس میں عبادت کریں تو تو ان کو بخش دینا۔ سب نے آمین کہا۔

اللہ تعالیٰ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب فرمایا کہ اے میرے حبیب! میرے ابراہیم اور اس کی آل نے آپ کی امت کو اس وقت فراموش نہیں کیا تو آپ کی امت کا ہر فرد جب میری عبادت کرے تو ان کو خیر و برکت سے یاد کر لیا کرے تاکہ ان کے احسانات کا بدلہ دیا جاسکے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کے درود بھیجنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے حضور علیہ السلام پر برکتیں نازل کرتے ہیں۔

# دَرُودِ شَرِيفِ

## احادیث مبارکہ کی روشنی میں

①

بخاری شریف میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام منبر پر تشریف فرما ہوئے، آپ نے تین مرتبہ آمین فرمایا۔ صحابہ کرامؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! آپ نے آج خلافتِ معمول تین بار آمین آمین آمین فرمایا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہاں! حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور کہا کہ جس شخص کے والدین زندہ ہیں یا ان میں سے ایک بھی زندہ ہے اور وہ شخص ان کی خدمت سے محروم رہا اسے اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے محروم کر دے۔ میں نے کہا آمین! پھر کہا جو شخص رمضان المبارک میں موجود ہو اور روزے نہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے محروم کر دے۔ میں نے



کہا آمین! پھر کہا تیسرا وہ شخص جس نے آپ کا نام مبارک سنا اور  
درود نہ پڑھا اسے بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت و بخشش سے محروم کرنے  
میں نے کہا آمین!

(۲)

حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور نبی کریم  
علیہ الصلوٰۃ والسلام خوش و خرم تشریف لارہے تھے، ارشاد فرمایا میرے  
پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا یا رسول اللہ صلی  
اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ آپ کا کوئی  
امتی آپ پر ایک بار درود پاک پڑھے تو میں اس پر دس بار درود  
شریف پڑھوں۔ آپ کا امتی آپ پر ایک بار سلام پڑھے اور میں  
اس پر دس بار سلام پڑھوں۔

(۳)

حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جمعہ  
کے دن مجھ پر درود شریف بھیجا اللہ تعالیٰ اس کے اسی سالہ کے  
گناہ معاف کر دے گا۔  
ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم!

ابو قتال نے بتایا ہے کہ آپ پر جمعہ کے دن جو کوئی ساٹھ مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے اسی سالہ گناہ معاف فرما دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں اس نے درست کہا ہے۔

اس سے حدیث شریف کے بارے میں حضرت ابو الحجاج بیان فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو آپ نے ابو قتال والی حدیث کی تائید فرمائی۔ حضرت ابو الحجاج جب بھی یہ حدیث پاک بیان فرماتے تو کہتے کہ مجھے ابو قتال کی روایت کی تصدیق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں فرمادی ہے اور میرا ایمان ہے کہ جس نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے شک اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ کیونکہ شیطان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں آنے کی طاقت نہیں رکھتا۔

(۶)

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،  
”مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو۔“

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ  
 وآلہ وسلم! آپ کے اس دنیا سے پر وہ فرماتے کے بعد بھی آپ کو  
 درود پہنچتا رہے گا؟ ارشاد فرمایا ہاں! اللہ تعالیٰ نے میری قبر پر  
 فرشتے مقرر کر دیئے ہیں۔ ان کے سردار کا نام صلصا بیل ہے۔ اس  
 کی شکل مرغ جیسی ہے اس کے تین پر ہیں۔ اگر وہ پروں کو کھول دے  
 تو ایک مشرق تک اور دوسرا مغرب تک پھیل جاتا ہے اور ایک میری  
 قبر کو ڈھانپ لیتا ہے۔ جب کوئی مسلمان یہ درود پاک پڑھتا ہے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ

عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

تو فرشتہ اس مسلمان کے منہ سے یہ الفاظ ایسے چن لیتا ہے جس  
 طرح ایک پرندہ دانے کو چبتا ہے۔ میری قبر پر وہ فرشتہ پر پھیلا کر  
 کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! فلاں شخص فلاں کے  
 بیٹے نے آپ پر درود پاک بھیجا ہے۔

اس درود پاک کو فرشتے لکھ لیتے ہیں یہ تحریر نور کے کاغذ پر

مشک اذ فر سے تحریر کی جاتی ہے۔ اس کے بیس ہزار درجات ہیں

یا صاف ہو جاتا ہے۔ بیس ہزار نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ بیس ہزار برائیوں

نامہ اعمال سے ختم کر دی جاتی ہیں۔ بیس ہزار درخت ہیر کے کنارے لگا دیے جاتے ہیں۔ اس تحریر کو مشک اذفر سے سر بہر کر دیا جاتا ہے۔ اور جب وہ شخص انتقال کر جاتا ہے تو اس کے سر ہانے رکھ دیتے ہیں۔

حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا۔ قیامت کے دن جب زمین پھٹے گی تو میں باہر سب سے پہلے نکلوں گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے لیے سواری لائیں گے۔ اس کی پیشانی پر کلمہ طیبہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ لکھا ہوگا۔ اس کے ستر ہزار پر ہوں گے اس وقت میں لوٹے گا مٹھا کر رضوان بہشت کو دوں گا۔ لوٹے گا کے درمیان بھی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ لکھا ہوا ہے۔ لوٹے گا اس قدر وسیع ہے کہ اگر اس کو کھول دیا جائے تو پوری کائنات اس کے نیچے آجائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے دل سے ہاتھ ہوں گے۔ میکائیل علیہ السلام بائیں ہاتھ پر ہوں گے۔ اس کے بعد جب میزان عدل کے پاس لوٹے گا نصب کر دیا جائے گا۔ ترازو لگا دیا جائے گا۔ لوگوں کو بلایا جانے لگے گا اور حساب و کتاب شروع ہوگا۔ جب کوئی ایسا شخص حاضر ہوگا جس نے محمد پر درود پاک پڑھا تھا اور کثرت سے پڑھا تھا اس کے اعمال ترازو میں رکھے جائیں گے ترازو ہلکا ہوگا۔ اعمال مقوڑے ہوں گے

میں وزن کرنے والے کو کہوں گا، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے ذرا مٹھہر جاؤ۔ اس شخص کی ایک امانت میرے پاس ہے اس نے میرے ساتھ ایک نیکی کی ہے اور اس کے نامہ اعمال میں لکھی ہوئی ہے۔  
چنانچہ اس کا نام جس نے درود پاک پڑھا سامنے لایا جائے گا۔  
ترازو پر رکھا جائے گا اس کا پلڑا وزنی ہو جائے گا اور اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔

۵

حضرت ابوسعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس مجلس میں مجھ پر درود پاک نہیں پڑھا جاتا وہاں پر سوائے حسرت و یاس کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ اگر یہ لوگ جنت میں بھی چلے جائیں تو درود شریف کے بغیر خوشی و مسرت نہیں پاسکیں گے۔

۶

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسلمان مجھ پر درود پاک پڑھتا

ہے تو میں اسی وقت اس درود شریف کا جواب دیتا ہوں۔ اسی طرح جو سلام پیش کرتا ہے اس کا بھی جواب دیتا ہوں۔

(۷)

حدیث پاک میں آیا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا جو امتی خلوص دل کے ساتھ مجھ پر درود شریف پڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ اس پر دس بار درود بھیجے گا اس کے نامہ اعمال میں دس نیکیاں لکھے گا۔ اس کے دس درجات بلند ہوں گے اور دس بُرائیاں مٹا دی جائیں گی۔

(۸)

حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک صحابی نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! اگر میں رات کا تیسرا حصہ آپ پر درود پاک پڑھوں تو کافی ہے؟ آپ نے فرمایا اگر زیادہ پڑھو تو زیادہ اچھا ہے۔ صحابی نے عرض کیا کہ اگر آدھی رات تک درود پاک پڑھوں تو کافی ہوگا؟ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نہیں، زیادہ پڑھو تو اس سے بھی بہتر ہے۔

صحابیؓ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! اگر میں آپ پر ساری رات درود پاک پڑھوں تو پھر؟ آپ نے خوش ہوتے ہوئے فرمایا۔ پھر تو اللہ تعالیٰ کی بھرپور رحمتیں نازل ہوں گی۔ تمہارے عزم ختم ہو جائیں گے۔ سارے گناہ مٹ جائیں گے۔

۹

حدیث پاک میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ اے موسیٰ! کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہارے انتہائی نزدیک ہو جاؤں، تمہارے کلام سے بھی نزدیک، تمہارے دل سے بھی نزدیک، تمہاری زبان سے بھی نزدیک، تمہاری روح اور جسم سے بھی نزدیک، تمہاری آنکھوں کے نور اور تمہاری آنکھوں سے بھی نزدیک ہو جاؤں۔ حتیٰ کہ جس طرح تمہاری سماعت کان کے نزدیک ہے، جس طرح تمہاری آنکھوں کی سفیدی آنکھوں کی سیاہی کے نزدیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ! میری تو یہ دل کی خواہش ہے کہ میں تیرے قریب تر ہو جاؤں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا اے موسیٰ پھر تم مجھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو تاکہ تمہیں میری قربت کی دولت میسر ہو سکے۔ یہ پیغام بنی اسرائیل

کو بھی پہنچا دو کہ جو شخص میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منکر ہوگا اور ان سے بغض رکھے گا اس پر جہنم کی آگ مسدود کر دی جائے گی۔ اسے میں اپنی زیارت سے محروم کر دوں گا۔ میرا کوئی فرشتہ اس پر رحم نہیں کرے گا۔ میرا کوئی پیغمبر اس کی شفاعت نہیں کرے گا۔ اور اس کو دوزخ کی آگ میں ڈال دیا جائے گا اور اس کی نجات کی کوئی راہ نہیں ہوگی۔

۱۰

ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی پاس ہی تشریف رکھتے تھے۔ اسی اثنا میں ایک اعرابی آیا اور اس نے آتے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرتے ہوئے کہا:

”السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَهْلَ الْقَوَى الْمَشَائِخِ

الْكَرَامِ السَّادِجِ“

حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس اعرابی کو اپنے انتہائی قریب بٹھایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض



کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! کیا وجہ ہے کہ آپ نے اس شخص کو اپنے انتہائی نزدیک بٹھا لیا ہے؟ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکرؓ! جبرائیل علیہ السلام نے مجھے خبر دی ہے کہ یہ اعرابی مجھ پر درودِ سلام بھیجتا رہتا ہے اور ان الفاظ میں درودِ پاک پڑھتا ہے کہ آج تک کسی دوسرے نے یہ الفاظ استعمال نہیں کیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! وہ درودِ پاک کونسا ہے ارشاد فرمایا۔

”اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ فِي  
الْأُولَىٰ وَالْآخِرِينَ وَفِي الْمَلَائِكَةِ الْأَعْلَىٰ إِلَى  
يَوْمِ الدِّينِ“

۱۱

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک بیان فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام پر درودِ پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ کو مقرر کرتا ہے کہ اس درودِ مبارک

کے تحفے کو فوراً حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں پہنچاؤ۔ وہ فرشتہ کہتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! فلاں بن فلاں یا فلاں بنت فلاں نے آپ پر ایک بار درود پاک بھیجا ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام انتہائی خوشی اور مسرت سے جواب دیتے ہیں کہ میری طرف سے اسے کس بار سلام پہنچاؤ اور اسے پیغام پہنچاؤ کہ تم جنت میں میرے نزدیک ہو گے اور اس کی مثال میری ان دو انگلیوں کی طرح ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ متصل ہیں۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یہ بات اپنی دونوں انگشت ہائے مبارک ملا کر فرمائی کہ وہ یقینی طور پر میری شفاعت کا مستحق ہوگا۔

۱۲

ترمذی شریف میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک بھیجا ہے۔

۱۳

ترمذی شریف میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے

ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اصل میں نجیل وہ شخص ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود شریف نہ پڑھے۔

۱۴

ترمذی شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔

۱۵

ترمذی شریف میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! میں آپ پر کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہتا ہوں اب اس کے لیے اور اپنے اور اوراد و وظائف کے لیے کتنا وقت مقرر کروں؟ ارشاد فرمایا جتنا تم چاہو۔ عرض کیا چوتھائی؟ فرمایا جتنا تم چاہو اور اگر زیادہ کرو تو تمہارے لیے اور بہتر

ہے۔ میں نے عرض کیا نصف؟ فرمایا جتنا تم چاہو اور اگر اس سے بھی زیادہ  
 کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا دو تہائی؟ فرمایا جتنا تم چاہو  
 اگر زیادہ کر لو تو یہ تمہارے لیے اور بہتر ہے، میں نے عرض کیا تو پھر میں سارا  
 وقت درود پاک ہی کے لیے مقرر کر لوں۔ ارشاد فرمایا ایسا ہو تو وہ تمہارے سارے  
 کاموں کے لیے کافی ہو گا۔ اور تمہارے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔

۱۶

حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم مجھ پر جمعہ کے  
 دن اور جمعہ کی رات کو درود شریف کثرت سے بھیجا کرو۔ کیونکہ باقی دنوں  
 میں ملائکہ تمہارا درود پاک پہنچاتے رہتے ہیں لیکن جمعہ کے دن اور  
 جمعہ کی رات جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اس کو میں اپنے  
 کانوں سے سنتا ہوں۔

۱۷

مشکوٰۃ شریف میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان  
 فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھ پر ہر  
 جمعہ کے دن کثرت سے درود پاک بھیجا کرو۔ کیونکہ یہ یوم مشہور

ہے اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ جو بندہ مجھ پر درود شریف پڑھے اس کی آواز مجھ تک پہنچ جاتی ہے۔ جہاں پر بھی وہ بندہ ہو۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! کیا آپ کے وصال مبارک کے بعد بھی آپ تک درود شریف پڑھنے والوں کی آواز پہنچے گی؟ ارشاد فرمایا ہاں! وصال کے بعد بھی میں سنوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیائے کرام علیہم السلام کے جسموں کو کھانا زمین پر حرام فرمادیا ہے لہذا اللہ کے نبی زندہ ہیں، رزق دیئے جاتے ہیں۔

۱۸

مشکوٰۃ شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نماز ادا کی جبکہ اس وقت حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تشریف فرما تھے۔ جب میں نماز کی ادائیگی کے بعد بیٹھا اور خدا تعالیٰ کی حمد و ثنا کی۔ پھر میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ کر دعا مانگی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو مانگ تو تجھے عطا کیا جائے گا۔ تو مانگ تجھے عطا کیا جائے گا۔

✽

مشکوٰۃ شریف میں حضرت فضالہ بن عبید اللہ کے حوالے سے حدیث مبارک درج ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام تشریف فرماتھے کہ ایک نمازی آیا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو اس نے اس طرح دعا مانگنا شروع کی اے اللہ! مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما۔ یہ سن کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے نمازی! تو نے عجلت سے کام لیا ہے۔ جب تو نماز پڑھ کر بیٹھے تو پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کیا کر جو اس کی شان کے لائق ہے۔ اس کے بعد مجھ پر درود پڑھ کر دعا مانگ پھر ایک اور نمازی آیا اور اس نے نماز ادا کر کے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور پھر درود شریف پڑھ کر دعا مانگی تو حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا اے نمازی! تو دعا کر تیری دعا قبول ہوگی۔

ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص ہر روز سو مرتبہ درود پاک پڑھے اس کی سو حاجات پوری کی جائیں گی۔ جن میں سے تیس دنیا میں اور باقی آخرت

میں پوری کی جائیں گی۔

۲۱

بیہقی نے لکھا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص میری قبر پر درود پاک پڑھتا ہے اس کو میں خود سنتا ہوں اور جو مجھ سے فاصلہ پر پڑھتا ہے وہ میرے پاس (فرشتوں کے ذریعہ سے) پہنچا دیا جاتا ہے۔

۲۲

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر کثرت سے درود پاک بھیجے گا وہ عرش کے سایہ تلے ہوگا۔

۲۳

طبرانی نے حضرت ابوالدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح و شام مجھ پر دس دس مرتبہ درود پاک پڑھے اس کو روز قیامت

میری شفاعت پہنچ کر رہے گی۔

۲۳

مسند فردوس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر درود پاک بھیجتا ہے تو ایک فرشتہ اس درود پاک کو لے جا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتا ہے پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ اس درود پاک کو میرے بندہ کی قبر کے پاس لے جاؤ یہ اس کے لیے استغفار کرے گا۔ اور اس کے باعث اس کی آنکھ ٹھہری ہوگی۔

۲۵

بخاری شریف میں لکھا ہے کہ حضرت عبدالرحمن بن ابی لیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ اے عبدالرحمن! میں تجھے ایک ایسا ہدیہ دوں جو میں نے حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے سنا ہے۔ میں نے کہا ضرور چنانچہ انھوں نے فرمایا کہ ہم نے حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے



عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! آپ پر کن الفاظ کے ساتھ  
 درود پاک پڑھا جائے (کیونکہ) اللہ تعالیٰ نے یہ تو ہمیں بتا دیا ہے کہ  
 آپ پر کس طرح سلام بھیجیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے  
 ارشاد فرمایا کہ اس طرح درود پاک پڑھا کرو۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ  
 عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ

۲۶

ابوداؤد شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے  
 سے درج ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس  
 شخص کو یہ بات پسند ہو کہ وہ جب درود پاک پڑھے ہمارے گھرانے  
 پر، تو اس درود پاک کا ثواب بہت بڑی تعداد میں دیا جائے تو وہ ان  
 الفاظ سے درود پاک پڑھا کرے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَأَتْرَاجِهِ  
 أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ

كَمَا صَلَّيْتَ عَلَيَّ اِبْرَاهِيْمًا نَكَحْتَهُ حَبِيْبًا فَحَبِيْبُهُ

ترجمہ: ”اے اللہ! درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو نبی

اُمّی ہیں اور آپ کی ازواج مطہرات پر جو تمام مومنین کی مائیں ہیں اور  
آپ کی آل پر اور آپ کے اہل بیت پر جیسا کہ درود بھیجا تو نے آل ابراہیم پر  
بیشک حمد اور بزرگی کے لائق تو ہی ہے۔

۲۷

ابو داؤد شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کے حوالے سے درج ہے  
کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو قوم کسی مجلس میں  
بیٹھے اور اس مجلس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر  
درود پاک نہ ہو تو یہ مجلس ان پر روز قیامت ایک وبال ہوگی۔ پس اللہ تعالیٰ  
چاہے، تو ان کو عذاب دے، اور اگر چاہے، تو ان کو معاف کر دے۔

۲۸

مسلم شریف و ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی  
اللہ عنہما کے حوالے سے درج ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد

فرمایا۔ جب تم اذان کی آواز سنا کرو، تو مؤذن جو الفاظ کہے، وہی تم کہا کرو اس کے بعد مجھ پر درود پاک پڑھا کرو اس لیے کہ مجھ پر جو شخص ایک مرتبہ درود پاک بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر دس مرتبہ درود پاک بھیجتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ کی دعا کرو۔ کیونکہ وسیلہ جنت کی ایک منزل (درجہ) ہے جو صرف ایک نبی بندے کو ملے گا، اور مجھے امید ہے، کہ وہ ایک بندہ میں ہی ہوں۔ پس جو شخص میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ کی دعا کرے گا، اس پر میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔

۲۹

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے سوار کے پیالہ کی مانند بناؤ جو پہلے اس کو پانی سے بھرتا ہے پھر اس کو رکھ دیتا ہے۔ اور اپنے سامان کی ترتیب اور اس کو اٹھانے اور ہٹانے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ اور جب پھر اس کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس میں سے پیتا ہے، وٹو کرتا ہے، ورنہ اس کو پھینک دیتا ہے۔ تم جب بھی دعا کرو، تو شروع میں مجھ پر درود پاک پڑھو، دعا کے درمیان میں بھی درود پاک پڑھنے سے غفلت نہ برتو اور دعا کے آخری کلمات درود پاک

پر ختم ہونے چاہئیں۔

۳۰

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا، جب تک اس کتاب میں میرا نام ہے۔ اس کے لکھنے والے کے لیے فرشتے مغفرت طلب کرتے رہیں گے۔

۳۱

حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ جتنی دیر تک کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا رہتا ہے۔ اتنی مدت تک فرشتے اس کے لیے رحمت طلب کرتے رہتے ہیں۔ اب چاہے بندہ زیادہ دیر تک پڑھے یا کم وقت پڑھے۔

۳۲

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اذان سنتے ہی بعد میں یہ کلمات

پڑھے، اس کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت واجب ہوگی۔

اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ الثَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ  
 آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا  
 مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ

۳۳

حضرت ابن وہب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی  
 اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے لیے دس مرتبہ درود  
 پاک پڑھا، اس کو اتنا اجر ملے گا جتنا کہ ایک غلام آزاد کرنے سے ملتا ہے

۳۴

حدیث پاک میں آتا ہے۔ کہ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام  
 حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے۔ اور کہا کہ  
 میں نے آسمانوں پر ایک ایسا فرشتہ دیکھا جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ اور اس کی  
 خدمت میں ستر ہزار فرشتے صفت بستہ کھڑے تھے۔ اس کے ہر سانس سے  
 اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے۔ ابھی ابھی میں نے اسے شکستہ پروں  
 کے ساتھ کوہ قاف میں روتے ہوئے دیکھا ہے اس نے جب مجھے دیکھا تو

کہا تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میری سفارش کرو میں نے اس سے پوچھا کہ میرا جرم کیا ہے؟ اس نے کہا کہ معراج شریف کی شب جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری گزری تو میں تخت پر بیٹھا رہا، تعلیم کے لیے کھڑا نہیں ہوا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس جگہ اس عذاب میں مبتلا کر دیا ہے۔ حضرت جبرائیل فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور اس کی سفارش کی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا تم اس سے کہو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ چنانچہ اس فرشتہ نے آپ پر درود پاک بھیجا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اس لغزش کو معاف فرما دیا اور اس کے نئے پر بھی پیدا فرما دیے۔

۳۵

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک جماعت کو حکم ہوگا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے یہ سن کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! یہ کون لوگ ہونگے؟ آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے سامنے میرا نام لیا گیا مگر وہ درود پاک نہ پڑھ سکے۔

۳۴

حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر دعا کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے ان حجابات سے گزرنا پڑتا ہے جو آسمانوں کے درمیان ہیں۔ یہ حجابات درود پاک کے بغیر کسی چیز سے نہیں کھلتے۔ جب درود پاک پڑھا جاتا ہے تو یہ حجابات اٹھ جاتے ہیں، اور یہ دعا آسمانوں سے بلند ہوتی جاتی ہے، اگر درود پاک نہ پڑھا جائے تو یہ دعا واپس لوٹ آتی ہے۔

۳۵

حضرت زید بن ریح رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر ایک سو مرتبہ درود شریف بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس کے سمندوں کے جھاگ کی مقدار میں گناہ معاف فرما دے گا۔

۳۸

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ

والسلام نے حجۃ الوداع کے خطبہ میں ارشاد فرمایا۔ اے میری اُمت! اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو اس استغفار کی وجہ سے بخش دے گا۔ جو تم نے صدقِ نیت سے کیا ہے۔ تمہارے وہ گناہ معاف فرمادے گا۔ جو تم صدقِ نیت سے معاف کروانے کی خواہش رکھو گے۔ تم اس استغفار کے ساتھ لا الہ الا اللہ ضرور پڑھو، لیکن یاد رکھو کہ جو مجھ پر درود پاک پڑھے گا میں قیامت کے روز اس کی شفاعت کروں گا۔

۳۹

حضرت عبدالرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ، بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنے بیتِ اہل سے باہر آئے۔ اور ارشاد فرمایا کہ کل رات مجھے عجیب و غریب خواب دکھائی دیا ہے۔ میں نے اپنی اُمت کا ایک آدمی پل صراط پر سے گزرتے ہوئے دیکھا۔ جو کانپ رہا تھا اور لرزتا ہوا جا رہا تھا۔ (اسی اثنا میں) درود پاک کا وہ کلمہ جو اس نے اپنی زندگی میں مجھ پر بھیجا تھا۔ آپہنچا۔ اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے پل صراط پار کرادیا۔

۴۰

حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم



نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حج ادا کرنے کے بعد کفار کے ساتھ جہاد میں شریک ہوا۔ اس حج کا ثواب چار سو حج جیسا ہوگا۔ لیکن جو غریب مساکین حج و جہاد کی نعمت سے محروم رہیں گے۔ وہ شکستہ خاطر اور مایوس ہوں گے (مگر) اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی کے ذریعہ سے بتا دیا ہے کہ اے محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) آپ کا کوئی بھی امتی اگر آپ پر درود پاک بھیجے گا تو میں ان کے نامہ اعمال پر چار سو عزرات کی شرکت کا ثواب اور چار سو حج کے درجات لکھ دوں گا۔

(۶۱)

حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میری امت کے ایک شخص کو جہنم کی آگ میں ڈالنے کا حکم ہوگا۔ وہ روتے ہوئے کہے گا، اے ملائکہ مجھے کہاں پر پھینکنے کا حکم ہوا ہے؟ فرشتے کہیں گے کہ جہنم میں۔ وہ کہے گا کہ مجھے چند لمحات کی مہلت دے دو، تاکہ میں اپنی حالت پر روسکوں۔ فرشتے کہیں گے اے شخص! یہ تدامت کے آنسو تو تجھے اپنی زندگی میں بہانے چاہئیں تھے تاکہ تجھے کوئی فائدہ ہوتا آج رونے سے کیا حاصل ہے۔ وہ شخص کہے گا کہ

میں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں۔ جہنم کی آگ کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہوں۔ مجھے اپنے خدائے سے یہ گمان کبھی نہ تھا۔

فرشتے اس سے پوچھیں گے اے اللہ کے بندے! تجھے اپنے اللہ تعالیٰ سے کیا گمان تھا؟ وہ کہے گا کہ مجھے اپنے اللہ تعالیٰ سے یہ اُمید تھی کہ وہ مجھے کفار کے ساتھ دوزخ میں نہیں رکھے گا۔ فرشتے کہیں گے وہ دیکھو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں ان کو پکارو تاکہ وہ تیری شفاعت کر سکیں ورنہ تجھے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ وہ بندہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارے گا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اس بندہ کی آواز پر توجہ فرمائیں گے اور دیکھیں گے کہ اس کو عذاب کے فرشتوں نے جکڑ رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتوں سے فرمائیں گے کہ اے میرے حوالے کر دیا جائے تاکہ اس کے اعمال کو دوبارہ تو لا جا سکے۔ فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار ہیں یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اسی کے حکم کے تحت کر رہے ہیں۔ جب تک اللہ تعالیٰ کا فرمان نہ ہو ہم اس کو

نہیں چھوڑ سکتے۔

حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام اس وقت سجدہ میں گر جائیں گے اور عرض کریں گے اے اللہ! آج تیرے فرشتے میرے اوتیرے ایک بندے کے درمیان حائل ہو رہے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوگا اے فرشتو میرے بندے کو میرے پیغمبر کے حوالے کر دو۔ چنانچہ حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام اس گنہگار امتی کو لے کر میزان کے پاس تشریف لائیں گے اور نیکیوں کے دفتر میں سے ایک مٹھی میزان میں رکھیں گے جس سے بُرائیاں دب کر رہ جائیں گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوگا کہ اس بندے کو جنت میں لے جاؤ۔ جب اس بندے کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام جنت کے دروازے پر کھڑے دکھائی دیں گے۔ آپ مسکرا کر فرمائیں گے مجھے پہچانتے ہو؟ وہ کہے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائیں گے کہ وہ نیکیوں کی ایک مٹھی جو تمہاری تمام بُرائیوں پر غالب آگئی تھی وہ درود پاک تھا جو تم دنیاوی زندگی میں میرے لیے پڑھا کرتے تھے۔

وہ شخص اتنی وقت حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی قدم

بوسے کرے گا اور عرض کرے گا اگر آپ آج میری شفا عمت نہ فرماتے  
اور میرا درود پاک آپ کی ذاتِ اطہر پر نہ ہوتا تو میں دوزخ کی آگ  
میں ہوتا۔



قصیدہ بردہ شریف کا شعر

وَأَمَّنُ بِمَنْ يَرْسُولُ اللَّهِ نَصْرَهُ  
إِنْ شَاقَّهُ الْأَسْلَابُ بِأَجْمَلِهِ

اور میں اپنے شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید و نصرت ہوا اگر اس کی  
جنگوں کے شیر بھی آجائیں تو وہ ہوتے کیونکہ میں نے اپنے لیے  
مجال جاب میں گئے۔

# دُرُودِ اِبْرَاهِمِي

دُرُودِ شَرِيفِ پڑھنے کے بے شمار فضائل قرآن کریم اور احادیث نبوی سے ثابت ہیں۔ قرآن کریم کی مندرجہ ذیل آیت کریمہ سے دُرُودِ شَرِيفِ پڑھنے کی تاکید معلوم ہوگی۔

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يَصَلُّوْنَ عَلَي النَّبِيِّ ط  
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

(بیشک اللہ اور اس کے فرشتے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوٰۃ بھیجتے ہیں۔ اے مسلمانو! تم بھی ان پر دُرُود اور سلام بھیجو) اس دُرُودِ شَرِيفِ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاندانِ ابراہیم سے محبت کا اظہار ہوتا ہے اور اسی محبت کی بنا پر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے ایک بیٹے کا نام ابراہیم رکھا اس کے علاوہ شبِ معراج میں حضرت ابراہیم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ اپنی امت کو میرا سلام پیش کر دیجئے گا۔

اس سلام کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دُرودِ ابراہیمی میں ان پر سلام پیش کیا۔ یہ دُرود تمام دُرودوں سے افضل ہے اس دُرود کے الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودہ ہیں اس لیے اس دُرود شریف کو نماز کے علاوہ کثرت سے پڑھنا دینی و دنیاوی فیوض و برکات حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت و خوشنودی حاصل ہوتی ہے دنیا کے سب کاموں میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ حضور کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے۔ اس دُرود شریف کو معمول سے پڑھنے والا جنت میں جائے گا۔

## بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

## اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ

اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر

## مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰی اِبْرٰهِيْمَ

صلوٰۃ بھیج جس طرح تو نے حضرت ابراہیم پر

وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ

اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر صلوٰۃ بھیجی بیشک تو

مَجِيدٌ ۝ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ

تعریف کیا گیا عظمت والا ہے اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو

وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ

اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو برکت دے جس طرح تو نے حضرت

إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ

ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کو برکت دی ہے شک

حَمِيدٌ مَجِيدٌ ۝

تو تعریف کیا گیا بزرگ ہے

دُرُودُ زَهْرَةِ تَبَوُّلٍ

غوثِ وقت حضرت سید عبد العزیز دُبَّانِ قَارِسِي قَدِيسِ سَرَّةِ فَرَا

ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے دیوان صاحبین میں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ

عنها کو اپنے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ دُرُود پڑھتے

سُتْنَا النِّقَاطُ تَوْبَهُ نَحْنُ (غالباً سرسراہی ہوں گے) مگر معنی جو میں نے

عبارت سے اخذ کیے وہ یہ تھے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ رُوْحُهُ

مِحْرَابُ الْأَرْوَاحِ وَالْمَلَائِكَةِ

وَالْكَوْنِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

مَنْ هُوَ إِمَامُ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ۝

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ هُوَ إِمَامُ

أَهْلِ الْجَنَّةِ عِبَادِ اللَّهِ

الْمُؤْمِنِينَ ۝



## دُرُودِ خَمْسَةِ

ہر قسم کے مصائب و مشکلات سے محفوظ رہنے کے لیے  
 دُرُودِ خَمْسَةِ کا ورد سب سے اعلیٰ اور موثر ہے۔ اس دُرُودِ شریف کو کثرت  
 سے پڑھنا ہر مشکل کا حل یقیناً کامیابی ہے۔ اس دُرُودِ شریف کو روزانہ ہر  
 نماز کے بعد تین مرتبہ پڑھنا مرنے کے بعد قبر میں سوال و جواب میں  
 آسانی راحت اور مغفرت کا باعث بنے گا۔

### بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

### اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی

اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس تعداد میں صلوة بھیج

### مَنْ صَلَّی عَلَیْهِ وَصَلَّی عَلٰی

جتنی کہ بھیجی گئی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم

### مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰی اِنَّ

پر اپنی چاہت اور رضا کے مطابق رحمت نازل

تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا

کر تو نے جیسا کہ تازل کی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما

أَمْرًا بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَى

جیسا کہ تو نے ہمیں ان پر درود بھیجنے کا حکم دیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم

مُحَمَّدٍ كَمَا تَتَّبِعِي الصَّلَاةَ عَلَيْهِ ط

پر درود بھیج جیسا کہ ان پر درود بھیجنے کا حق ہے

## دُرُودِ اَوَّلٍ وَاٰخِرٍ

جو شخص اس درود شریف کو کثرت سے پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دے گا۔ دشمن پر غالب رہے گا۔ قبر اور حشر کا خوف جاتا رہے گا۔ قید سے رہائی ہوگی۔ رزق میں کثافت ہوگی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَى حَبِیْبِهِ الْكَرِیْمِ الْاَوَّلِیْنَ

اے اللہ اپنے اقل اور آخر معزز حبیب پر اور ان کی آل

وَالْاٰخِرِیْنَ وَعَلَى اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ

پر اور ان کے صحابہ پر

وَبَارِكْ وَسَلِّمْ ط

دُرُودِ بَرَکَتِ اَوْرِ سَلَامِ بِحِجِّ

دُرُودِ مُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

جو شخص اس دُرُودِ شَرِيفِ كو ہر نماز کے بعد تلاوت کرتا رہے گا وہ ہمیشہ عزت پائے گا اور اس کا دل روشن ہو جائے گا۔ بزرگان اور جلیل القدر ہستیوں کی خواب میں زیارت ہوگی اگر شدید بیماری میں مریض مبتلا ہو تو اس کے سرانے سو دفعہ پڑھ کر دم کریں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰی

اے اللہ دُرُودِ اَوْرِ سَلَامِ اَوْرِ بَرَکَتِ بِحِجِّ اپنے

حَبِيبِكَ الْمُصْطَفٰی وَعَلٰی اٰلِهِ

حَبِيبِ مُصْطَفٰی صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ پَرِ اَوْرِ اَنْ كِي اٰلِ

وَسَلِّمْ .. امرتبه

پَرِ اَوْرِ سَلَامَتِي

## درود حصولِ رحمت

جو شخص اسے روزانہ پڑھنے کا اپنا معمول بنالے گا اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو کر اپنی نعمتوں اور رحمتوں سے نوازے گا۔ جس کی بدولت بے پناہ دینی اور دنیاوی کام میں فائدہ ہوں گے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ○

اللّٰهُمَّ صَلِّ صَلَوةً دَائِمًا وَسَلِّمْ

اے اللہ درود بھیج ابدی درود بھیج اور ابدی سلام

سَلَامًا مَا اَبَدًا عَلٰی حَبِیْبِكَ وَسَیِّدِ

اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کے سردار پر

النَّبِیِّکَ وَاٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ اَجْمَعِیْنَ

اور ان کی آل پر اور ان کے صحابہ پر پس

○ فَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ

تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں

## دُرُودِ حَبِیبِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ

یہ دُرُودِ عاشقانِ حَبِیبِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ کا خصوصی وظیفہ ہے اور اس کے بے شمار فیوض و برکات ہیں۔ پڑھنے والے پر اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے اور اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں حضور نبی کریم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ کی قربت نصیب ہوتی ہے۔ دنیا کے غموں سے نجات ملتی ہے۔ نامہ اعمال میں کثرت سے نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ پڑھنے والے کو حضور کی شفاعت نصیب ہوگی۔ صبح و شام بلکہ ہر نماز کے بعد یہ دُرُود پڑھنا بہت افضل ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ يَا رَسُوْلَ

اے اللہ کے رسول تجھ پر دُرُود اور سلام ہو اور اے اللہ کے

اللّٰهِ وَعَلٰی اٰلِکَ وَاَصْحٰبِکَ یَا

حَبِیبِ ہماری آل اور صحابہ پر بھی

حَبِیبِ اللّٰهِ ط

دُرُود اور سلام ہو

# دُرُودِ تَاجِ

اگر کوئی شخص زیارتِ جمالِ بے مثالِ رسولِ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آرزو دل و جان سے رکھتا ہو تو عروجِ ماہِ شبِ جمعہ کے بعد فراغتِ نمازِ عشاء کے با وضو جامہ پاک خوشبو دار پہن کر ایک سو پندرہ مرتبہ اس دُرودِ شریف کو پڑھ کر سو رہے گا۔ گیارہ شب اسی طرح سے پڑھے۔ انشاء اللہ شرفِ زیارتِ بابرکت سے مشرف ہوگا۔

سحر آسید اور جن شیاطین اس سے دور بھاگتے ہیں۔ فراخیِ رزق کے لیے اس کا ایک چلہ شبِ آوار کے وقت اکتالیس مرتبہ پڑھنا بہت مفید ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا

الہی ہمارے آقا و مولیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل

مُحَمَّدٍ صَاحِبِ التَّاجِ وَالْبِعْرَاجِ

اور معراج

فرما جو صاحبِ تاج

وَالْبُرَاقِ وَالْعَلَمِ دَا فِعِ الْبَلَاءِ

اور براق والے اور جھنڈے والے ہیں جن کے وسیلے سے بلاء

وَالْوَبَاءِ وَالْقَحْطِ وَالْمَرَضِ وَالْآلَمِ

وباء اور قحط اور مرض اور دکھ دُور ہوتا ہے

إِسْمُهُ مَكْتُوبٌ مَرْفُوعٌ مُشْفَعٌ

آپ کا نام نامی لکھا گیا۔ بلند کیا گیا قبول شفاعت کیا گیا

مَنْقُوشٌ فِي اللُّوحِ وَالْقَلَمِ سَيِّدِ

اور لوح و قلم میں کھودا ہوا ہے آپ

الْعَرَبِ وَالْعَجْرِ حَسْبُهُ مُقَدَّسٌ

عرب و عجم کے سردار ہیں آپ کا جسم نہایت مقدس

مِعْطَرٌ مَطْهَرٌ مُنَوَّرٌ فِي الْبَيْتِ وَ

خوشبودار پاکیزہ اور خانہ کعبہ و حرم پاک میں

الْحَرَمِ شَيْسِ الضُّحَى بَدْرِ الدُّجَى

منور ہے آپ چاشت گاہ کے آفتاب اندھیری رات کے

صَدْرِ الْعُلَى نُورِ الْهُدَى كَهْفِ

ماہتاب بلندیوں کے صدر نشین راہ ہدایت کے نور مخلوقات

الْوَرَىٰ مَصْبَاحِ الظَّالِمِ جَبِيلِ الشَّيْمِ

کی جائے پناہ اندھیروں کے چراغ نیک اطوار کے مالک

شَفِيعِ الْأُمَمِ صَاحِبِ الْجُودِ وَالْكَرَمِ

امتوں کے بختوانے والے بخشش و کرم سے موصوف ہیں

وَاللَّهُ عَاصِمُهُ وَجَبْرِيلُ خَادِمُهُ وَالْبُرَقُ

اللہ آپ کا نگہبان اور جبریل آپ کے خدمت گزار براق

مَرْكَبُهُ وَالْبُعْرَاجُ سَفَرُهُ وَسِدْرَةُ

آپ کی سواری معراج آپ کا سفر اور سدرہ

الْمُنْتَهَى مَقَامُهُ وَقَابُ قَوْسَيْنِ

المنتہی آپ کا مقام اور (قرب خداوندی میں) قاب قوسین

مَطْلُوبُهُ وَالْبَطْلُوبُ مَقْصُودُهُ

کا مرتبہ آپ کا مطلوب ہے اور مطلب ہی آپ کا مقصود ہے

وَالْمَقْصُودُ مَوْجُودُهُ سَيِّدِ الرِّسَالِ

اور مقصود آپ کو حاصل ہے آپ رسولوں کے سرور نبیوں

خَاتَمِ النَّبِيِّينَ شَفِيعِ الْمَدَانِيِّينَ

میں سب سے پیچھے آنے والے گنہگاروں کے بختوانے والے



أَنْبِيَاءُ الْغُرَبَاءِ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

مسافروں کے غم خوار دنیا جہان کے لیے رحمت عاشقوں کی

رَاحَةَ الْعَاشِقِينَ مُرَادِ الشَّاقِينَ

راحت مشتاقوں کی مراد خدا شناسوں کے

شَبَّاسِ الْعَارِفِينَ سِرَاجِ السَّالِكِينَ

آفتاب راہ خدا پر چلنے والوں کے چراغ مقربوں

مِصْبَاحِ الْبُقَرَاءِ مُحِبِّ الْفُقَرَاءِ

کے راہ نما محتاجوں عزیزوں

وَالْغُرَبَاءِ وَالسَّائِكِينَ سَيِّدِ الْفُقَرَاءِ

اور مسکینوں سے محبت رکھنے والے جن وانس کے

نَبِيِّ الْحَرَمَيْنِ إِمَامِ الْقِبْلَتَيْنِ

سردار حرمین کے نبی دونوں قبلوں (بیت المقدس و کعبہ) کے پیشوا

وَسَيِّدِنَا فِي الدَّارَيْنِ صَاحِبِ

اور دنیا و آخرت میں ہمارے وسیلہ ہیں وہ جو مرتبہ

قَابِ قَوْسَيْنِ مَحْبُوبِ الرَّبِّ

قاب قوسین پر فائز ہیں دو مشرقوں

الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبِّ الْمَغْرِبَيْنِ

اور دو مغربوں کے رب کے محبوب

جَدِّ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ مَوْلَانَا وَ

ہیں حضرت امام حسنؑ اور حضرت امام حسینؑ کے جد امجد اور

مَوْلَى الثَّقَلَيْنِ أَبِي الْقَاسِمِ مُحَمَّدِ

ہمارے اور تمہارے (تمام) جن وانس کے آقا ہیں یعنی ابی القاسم محمد

ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ نُورٍ مِّنْ نُورِ اللَّهِ

بن عبد اللہ جو اللہ کے نور میں سے ایک نور ہیں

يَا أَيُّهَا الشُّرَاقُونَ بِنُورِ جَمَالِهِ

اے نور جمال محمدی کے مشتاقو! آپ پر اور آپ کی

صَلُّوا عَلَيْهِ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ

آل اور آپ کے صحابہ پر درود و سلام

وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

بھیجو جو بھیجنے کا حق ہے

# درود لکھی

سُلطان المشائخ، واقف اسرار معنوی حضرت محمود غزنوی علیہ الرحمۃ کا یہ معمول تھا کہ ہر روز وظیفہ صدق نیت اور فرطِ محبت سے لاکھ بار درود شریف پڑھتے اور اس کا ثواب سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نذر کرتے چونکہ اس قدر پڑھنے میں تمام دن گزر جاتا اور انتظامِ مملکت کے واسطے فرصت کا وقت ہاتھ نہ آتا۔ ایک رات عالمِ خواب میں رسالتِ مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے (کہ آپ ہی کی ذاتِ بابرکات کا آخرت و دنیا میں اُمتِ عاصی کو سہارا ہے خود بادشاہِ جہاں ہیں۔ یہ محنتِ اُمت اور فتورِ سلطنت آپ کو کب گوارا ہے) سلطان محمود کو زیارتِ جمالِ جہاں آرا سے سرفراز کیا اور ارشادِ زبانِ وحی ترجمان سے یوں ممتاز کیا کہ اے محمود! اس درود شریف کو ہر روز بعد نماز فجر کے ایک مرتبہ پڑھا کر۔ لاکھ درود کا ثواب حاصل ہوگا۔ اس کی برکت سے میری محبت میں کامل ہوگا۔ اور جس قدر اس سے زیادہ پڑھا جائے گا، اسی قدر لاکھوں تک ثواب پائے گا۔

یہ درود مغفرت اور گناہوں کی معافی کے لیے بہت اکیسر ہے اس  
 درود پاک کو روزانہ ۱۱ مرتبہ پڑھنا وسیدہ بخشش ہوگا۔ دینی دنیوی حاجات  
 پوری ہوں گی۔ رزق میں اضافہ ہوگا۔

# دَرُودِ لَکھِی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا وَ

الہی ہمارے آقا و مولیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر

مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی آلِ سَيِّدِنَا

اور آپ کی آل پر بشمار اپنی رحمت

مُحَمَّدٍ بَعْدَ رَحْمَةِ اللّٰهِ ط اللّٰهُمَّ

کے درود و سلام نازل فرما الہی ہمارے

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا

آقا و مولیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَهُ

آپ کی آل پر بشارت اپنے فضل

فَضْلِ اللَّهِ ط اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ

کے رحمت کاملہ اور سلامتی نازل فرما۔ الہی ہمارے آقا و مولیٰ

سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر بشارت

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَهُ دِخَلِقِ اللَّهُ ط

اپنی مخلوقات کے رحمت کاملہ اور سلامتی نازل فرما۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا وَ

الہی ہمارے آقا و مولیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور

مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

آپ کی آل پر بشارت اپنی معلومات کے رحمت کاملہ

مُحَمَّدٍ بَعْدَهُ عَلِمِ اللَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ

اور سلامتی نازل فرما الہی ہمارے آقا و مولیٰ

وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ

محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ بَعْدَهُ

کی آل پر بشار اپنے کلمات کے رحمت کاملہ اور

كَلِمَاتِ اللَّهِ ط اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ

سلامتی نازل فرما۔ الہی ہمارے آقا و مولیٰ محمد صل

سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر اپنی بزرگی کے

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَهُ كَرِيمِ اللَّهُ ط اللَّهُمَّ

برابر رحمت کاملہ اور سلامتی نازل فرما۔ الہی ہمارے

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ

آقا و مولیٰ محمد صلے اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَهُ حُرُوفِ

کلام اللہ کے حروفوں کے برابر رحمت کاملہ اور سلامتی

كَلِمَاتِ اللَّهِ ط اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ

نازل فرما۔ الہی ہمارے آقا و مولیٰ محمد صلے اللہ علیہ وسلم

سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

پر اور آپ کی آل پر

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ قَطْرَاتِ الْأَمْطَارِ ط

بارشوں کے قطروں کے برابر رحمت کاملہ اور سلامتی نازل فرما۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا

الہی ہمارے آقا و مولیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ

آل پر درختوں کے پتوں کے برابر رحمت

أوراقِ الْأَشْجَارِ ط اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

کاملہ اور سلامتی نازل فرما الہی ہمارے آقا و مولیٰ

عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ رَمْلِ الْقَفَارِ ط

صحراؤں کی ریت (کے ذروں) کے برابر رحمت کاملہ اور سلامتی نازل فرما

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا

الہی ہمارے آقا و مولیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ

کی آل پر بشمار ہر اس چیز کے جو سمندروں

مَا خُلِقَ فِي الْبِحَارِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

میں پیدا کی گئی رحمت کاملہ اور سلامتی نازل فرما الہی ہمارے آقا و مولیٰ

عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر دانوں اور

أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ الْحَبُوبِ

پھلوں کی تعداد میں رحمت کاملہ اور سلامتی نازل

وَالْبَثَارِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

فرما الہی ہمارے آقا و مولیٰ محمد صلی اللہ علیہ

وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

و آلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر بشارت راتوں

بَعْدَ الْبَيْلِ وَالنَّهَارِ اللَّهُمَّ صَلِّ

اور دنوں کے رحمت کاملہ اور سلامتی نازل فرما۔ الہی ہمارے آقا و

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ

مولیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر بشارت

عَلَى أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ مَا أَظْلَمَ

ان چیزوں کے کہ جن پر رات نے اندھیرا اور دن نے



عَلَيْهِ الْيَلُّ وَأَشْرَقَ عَلَيْهِ النَّهَارُ

روشنی کی رحمت کاملہ اور سلامتی نازل فرما۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا

الہی ہمارے آقا و مولیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ

آپ کی آل پر بشار (ان نفوس) کے جنہوں نے حضور اقدس

مَنْ صَلِّ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

پر درود بھیجا رحمت کاملہ اور سلامتی نازل فرما۔ الہی ہمارے آقا و مولیٰ

عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر بشار (نفوس) کے

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ مَنْ لَمْ يَصِلْ

رحمت کاملہ اور سلامتی نازل فرما جنہوں نے حضور پر درود نہیں

عَلَيْهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

بھیجا الہی ہمارے آقا و مولیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر

وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

آپ کی آل پر اس قدر رحمت کاملہ اور سلامتی نازل فرما

بَعْدَ أَنْفَاسِ الْخَلَائِقِ اللَّهُمَّ صَلِّ

جس قدر کہ مخلوق نے سانس لی الہی ہمارے

وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ

آقا و مولیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ دُجُومِ

آسمان کے ستارے کے برابر رحمتِ کاملہ اور سلامتی

السُّبُوتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي

نازل فرما۔ الہی ہمارے آقا و مولیٰ محمد صلی اللہ علیہ

سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ

وسلم پر اور آپ کی آل پر دُنیا اور آخرت

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ كُلِّ شَيْءٍ فِي

کی ہر چیز کے برابر رحمتِ کاملہ

الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ صَلَوَاتُ اللَّهِ تَعَالَى

اور سلامتی نازل فرما خدائے برتر کی رحمتیں

وَمَلَائِكَتِهِ وَأَنْبِيَآئِهِ وَمُرْسَلِهِ وَ

اور اس کے فرشتوں، نبیوں رسولوں اور

جَمِيعِ الْخَلَائِقِ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ

تمام مخلوقات کا درود رسولوں کے سرور

وَأِمَامِ السَّقِيَّةِينَ وَقَائِدِ الْعُرَا الْحَجَلِينَ

پہمیزگاروں کے پیشوا درختوں پشانی والوں کے راہنما

وَشَفِيعِ الْمَذْنِبِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ

اور گنہگاروں کی شفاعت کرنے والے (یعنی) ہمارے آقا و مولیٰ

وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ

محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل، آپ کے اصحاب، ازواج

وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَأَهْلِ طَاعَتِكَ أَجْمَعِينَ

مطہرات، اولاد اور اہل بیت پر اور تیرے تمام اطاعت شعاروں

مِنْ أَهْلِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِينَ بِرَحْمَتِكَ

پر، سب جو آسمانوں اور زمینوں پر رہتے ہیں لے رحم کرنے والوں

يَا رَحِمَ الرَّاحِمِينَ وَيَا كَرِيمَ الْكَرِيمِينَ

میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے اور لے کرم کرنے والوں میں

وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

سب سے زیادہ کرم کرنے والے اپنی رحمت سے میری یہ التجا قبول فرما حق تعالیٰ

وَالِیْهِ وَأَصْحِبِهِ أَجْبَعِیْنَ وَسَلِّمْ

ہمارے آقا و مولیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر اور تمام

تَسْلِیْمًا دَائِمًا أَبَدًا كَثِیْرًا كَثِیْرًا ط

صحابہ پر ہمیشہ ہمیشہ رحمت و سلامتی نازل فرما اور ہر قسم کی حمد و ثناء حق تعالیٰ

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ ط

اسکا کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے ۔

## دُرُودُ اسْتِعَاثَہ

دلی مراد کے لیے اور فراخی رزق کے لیے اور آفتوں سے دو جہاں صلی اللہ  
علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے لیے اکبیر ہے۔

① صَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأَرْمِيِّ وَ

إِلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَوةً

وَسَلَامًا مَا عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ

قَلَّتْ حِيلَتِي أَنْتَ وَسَبِيلَتِي أَدْرِكُنِي

يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ط

② اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْ ضَاقتْ حِيلَتِي

أَدْرِكُنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ط

③ أَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا

سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَلَّتْ حِيلَتِي

أَدْرِكُنِي ط

## دُرُودِ شَرِيفِ ہزارہ

طالبان روحانیت کے لیے یہ دُرُودِ ہزارہ محبوب ترین دُرُودِ شَرِيفِ ہے طالب کے لیے روحانی منازل طے کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوتا ہے دُرُودِ ہزارہ تہجد کی نماز کے بعد ایک ہزار مرتبہ پڑھنا دین و دنیا کی دولت سے مالا مال ہوگا۔ ہر مشکل میں آسانی۔ وسعت رزق، قرضہ کی ادائیگی ہوگی۔ جمعہ کے روز ایک ہزار بار پڑھنے والا جنت میں داخل ہوگا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ

اے اللہ دُرُودِ بیہج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل کے اُپر

مُحَمَّدًا بَعْدَ كُلِّ ذَرَّةٍ مِّمَّا عَفَا

ہر ایک ذرہ کے عفو میں دس کروڑ بار

أَلْفِ مَرَّةٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ ط

اور برکت دے اور سلام بھیج

## دُرُودُ رُوحِي

قبرستان میں زیادہ تر پڑھا جاتا ہے۔ اس وجہ سے اس کی برکت سے رُوحوں کو نجات ملتی ہے اور اس کی برکت سے قیامت تک رُوحوں کو آرام ملتا رہتا ہے۔ جتنا زیادہ پڑھا جائے اتنا زیادہ ثواب ہوگا۔ یہاں تک کہ اس کا ثواب ماں باپ کی روح کو بخشنے کا ایسا ثواب ہے گویا تمام عمر کے ان کے حقوق ادا کر دیئے۔ انہیں اس سے اتنا درجہ ملتا ہے کہ فرشتے بھی زیارت کو آتے ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ مَادَامَتِ

لے اللہ درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تک نماز باقی ہے

الصَّلَاةِ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ مَادَامَتِ

اور درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تک

الرَّحْمَةِ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ مَا دَامَتْ

رحمت باقی ہے اور درود بھیج اُوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تک

الْبَرَكَاتُ وَصَلِّ عَلَى رُوحِ مُحَمَّدٍ

برکتیں ہیں اور درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رُوح

فِي الْأَرْوَاحِ وَصَلِّ عَلَى صُورَةٍ

پر درمیان رُوحوں کے اور درود بھیج اُوپر صورت

مُحَمَّدٍ فِي الصُّورِ وَصَلِّ عَلَى اسْمِ

محمد صلی اللہ علیہ وسلم صورتوں کے اور درود بھیج اُوپر نام محمد

مُحَمَّدٍ فِي الْأَسْمَاءِ وَصَلِّ عَلَى نَفْسِ

صلی اللہ علیہ وسلم کے اور درود بھیج اُوپر نفس

مُحَمَّدٍ فِي النَّفُوسِ وَصَلِّ عَلَى

محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان نفس کے اور درود بھیج اُوپر

قَلْبِ مُحَمَّدٍ فِي الْقُلُوبِ وَصَلِّ

قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان دلوں کے اور درود

عَلَى قَبْرِ مُحَمَّدٍ فِي الْقُبُورِ وَصَلِّ

بھیج اُوپر قبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان قبروں کے



عَلَى رَوْضَةِ مُحَمَّدٍ فِي الرِّيَاضِ

اور درود بھیج اوپر روضہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان روضوں کے

وَصَلِّ عَلَى جَسَدِ مُحَمَّدٍ فِي الْجَسَادِ

اور درود بھیج اوپر جسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جسموں

وَصَلِّ عَلَى تَرْبَةِ مُحَمَّدٍ فِي التَّرَابِ

کے اور درود بھیج اوپر تربت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان

وَصَلِّ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

خاک اور درود بھیج اوپر اپنی مخلوق کے بہترین (فرد) ہمارے سردار

وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَمْرًا وَاجِبًا

محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اوپر ان کے اولاد کے اور ان کے اصحاب اور ان کی اولاد

ذُرِّيَّاتِهِ وَأَهْلَ بَيْتِهِ وَأَحِبَّائِهِ

پر اور ان کی ذریعات پر اور ان کے اہل بیت پر اور ان کے تمام احباب

اجْبَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ

پر اور درود نازل کر اپنی رحمت کے ساتھ اے سب سے

الرَّاحِمِينَ ○

تربیان رحم کرنے والے

# دوامی درود شریف

اس درود شریف کے پڑھنے کا اتنا ثواب ہے جیسا ایک شخص نے پوری دلائل الخیرات کا ورد کیا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی

یا اللہ ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج آپ کی

اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِي

آل پر اس تعداد کے مطابق جو

عِلْمِ اللّٰهِ صَلَوَةٌ دَائِمَةٌ يَدَوَامِ

تیرے علم میں ہے ایسا درود جو اللہ تعالیٰ کے دائمی

مُلْكِ اللّٰهِ

ملک کے ساتھ دوامی ہے

# دُرُودِ شَیْبَانَا

تشریح دلائل الخیرات کے مولف لکھتے ہیں کہ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شوق ہو وہ خاص نیت سے یہ درود شریف پڑھے اور نماز عشاء کے بعد ایک ہزار بار پڑھے انشاء اللہ تعالیٰ چالیس دن کے اندر اندر ہی زیارت سے مشرف ہوگا۔ صبح شام دس دس مرتبہ پڑھے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا۔ ہر قسم کی تکلیف سے محفوظ رہے۔ اس درود شریف کے بے پناہ فوائد ہیں۔

## بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

اے اللہ درود بھیج ہمارے سرور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور

## عَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوٰةٍ دَجِیْبَا

ہمارے سرور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر ایسی رحمت و برکت نازل

## بِهَا مِنْ جَمِیْعِ الْاَهْوَالِ وَالْاَفَاتِ

فرما جس سے ہمیں تمام ڈر خوف اور آفتوں سے

وَتَقْضَىٰ لَنَا بِهَا جَمِيعُ الْحَاجَاتِ

نجات ہو جائے اور جس کی برکت سے ہماری تمام حاجتیں روا

وَتُطَهَّرْنَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ السَّيِّئَاتِ

ہو جائیں اور جس کی بدولت ہم تمام گناہوں سے پاک و مہمات ہو

وَتَرْفَعْنَا بِهَا عِنْدَكَ عَلَى الدَّرَجَاتِ

جائیں اور جس کے وسیلہ سے ہم تیری بارگاہ میں اعلیٰ درجوں پر

وَتُبَلِّغْنَا بِهَا أَقْصَى الْغَايَاتِ مِنْ

ممكن اور جس کے ذریعے ہم زندگی کی تمام نیکیوں اور مرتبے کے

جَمِيعِ الْخَيْرَاتِ فِي الْحَيَاةِ وَبَعْدَ

بعد کی تمام اچھائیوں سے بدرجہ غایت فائدہ حاصل

الْمَسَاءِ إِنَّكَ مُجِيبُ الدَّعَوَاتِ وَ

کریں خدائے پاک مستحق آپ ہماری دعاؤں کے قبول فرمانے

رَافِعُ الدَّرَجَاتِ وَيَا قَاضِيَ الْحَاجَاتِ

واہے ہیں اور ہمارے درجات کو بلند کرنے والے اور ہماری حاجتوں

وَيَا كَافِيَ الْمَهْمَاتِ وَيَا دَافِعَ الْبَلِيَّاتِ

کو بر لائنے والے اور ہماری بلاؤں کو دفع کرنے والے اور ہماری سخت

وَيَا حَلَّ الشُّكُلَاتِ اغْنِنِي

مشکلات کے حل کرنے والے میری فریاد کو پہنچیں اور اسے اپنے حضور

اغْنِنِي يَا اَلٰهِي اِنَّكَ عَلِيٌّ كُلُّ

تک رسائی دیں میری عرض قبول فرمائیں الہی تحقیق تو ہی ہر چیز پر

شَيْءٍ قَدِيرٌ

قدرت والا ہے

درود قرآنی

درود قرآنی کے بے شمار فوائد ہیں لیکن مختصراً درج ہیں اس کے پڑھنے سے رحمتِ ربی کا بادل فوراً آجاتا ہے اور رحمت برسانا شروع کر دیتا ہے اس کے پڑھنے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبردست محبت نصیب ہوتی ہے اس کو ایک مرتبہ پڑھنے سے ملائک آسمان پر اور آدمی زمین پر اگر رحمت کو جمع کرے تو ناممکن ہے کہ ایک حصہ بھی جمع کر سکے۔ یہ درود شریف پڑھنے سے بڑے زبردست فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اس کو تین مرتبہ صبح اور تین مرتبہ شام پڑھنے سے زبردست دینی و دنیوی کامیابی حاصل ہوتی ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَ

اے اللہ درود بھیج اُوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کی

اصحابہ بعددِ مائے جہیم

آلؑ پر اور ان کے دستوں پر مطابق قرآن کے حروف کی تعداد کے

الْقُرْآنِ حَرْفًا حَرْفًا وَبَعْدَ كُلِّ

اور ہر حرف کے بدلے ایک ایک ہزار کے

حَرْفِ الْفَاءِ الْفَاط

عدد کے مطابق

دُرُودِ تَارِيهِ

یہ ایسا درود شریف ہے جس کے فوائد لکھنا ناممکن ہے۔ یہ درود

ایک ایسا راز ہے جس کو عارفوں اور خاص الخاص ولیوں کے سوا کوئی

بھی سمجھ نہ سکا۔ اس میں بے شمار خاص فوائد ہیں جن کو اگر لکھا جائے

تو دنیا کی سیاہی اور کاغذ ختم ہو جائیں۔ سب سے زیادہ اس درود

شرفیہ کا فائدہ یہ ہے کہ جب بھی رنج و ملال ہو یا کوئی مصیبت آجائے  
 تو فوراً اس کو پڑھا جائے۔ انشاء اللہ تعالیٰ تمام مصیبتیں منٹوں میں  
 ختم ہو جائیں گی۔ اندھیرا اُجالے میں بدل جائے گا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ صَلَوةً كَامِلَةً وَسَلِّمْ

اے اللہ تو درود نازل کر ایسا درود جو کامل ہو اور سلام

سَلَامًا تَامًّا عَلٰی سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا

بھیج ایسا سلام ہو جو مکمل ہو اور پیر ہمارے سردار اور ہمارے

مُحَمَّدِ الَّذِي تَنَحَّلَ بِهِ الْعَقْدُ

آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کے ذریعے سے مشکلیں حل ہوتی ہیں

وَتَنْفَرِحُ بِهِ الْكُرْبُ وَتَقْضَى

اور پریشانیاں رفع ہوتی ہیں اور ضرورتیں پوری ہوتی ہیں

بِهِ الْحَوَائِجُ وَتُنَالُ بِهِ الرِّغَائِبُ

اور مقاصد حاصل ہوتے ہیں اور خاتمہ

وَحُسْنُ الْخَوَائِعِ وَيَسْتَقِي الْغَمَامُ

بخیر ہوتا ہے اور بادل آپ کے معزز چہرہ کو

بِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَعَلَى إِلِهِ وَصَّيْبُهُ

دیکھ کر سیراب ہوتا ہے اور درود بھیج آپ کی اولاد پر

فِي كُلِّ لَبْحَةٍ وَنَفْسٍ بَعْدَ كُلِّ

اور آپ کے دوستوں پر ہر لمحہ اور ہر نفس میں مطابق اپنی معلومات

مَعْلُومَاتِكَ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ

کے شمار کے لئے اللہ اے اللہ لئے اللہ

دُرُودِ قَلْبِي

اگر کوئی شخص چاہے کہ اس کی ہر دعا قبول ہو اور ہر ایک حاجت  
اس کی مرضی کے مطابق پوری ہو تو اس کے لیے یہ لاجواب درود  
ہے اس کو چاہیے کہ ہر دعا میں اس کو پڑھے۔ انشاء اللہ اس درود



شرف کی برکت سے اس کی ہر دعا قبول ہوگی۔

دُرُودِ قَلْبِی اللہ تعالیٰ عز اسما کے فضل و کرم سے قلب کو منور کرتا ہے اور کامیابی دیتا ہے۔ خاص طور پر جب بھی دعائیں پڑھے گا اللہ تعالیٰ ضرور دعا قبول کرتا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا

یا الہی درود بھیج اوپر ہمارے سردار ہمارے

رَاحَةَ قُلُوبِنَا وَشَفِیْعَ ذُنُوبِنَا وَطِیْبَ

دلوں کی راحت پر اور ہمارے شفیع

ظَاهِرِنَا وَبَاطِنِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِهِ

اور ہمیں ظاہر اور باطن میں پاکیزہ کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ

وَاصْحَابِهِ وَاَوْلِیَاءِ اُمَّتِهِ اَجْمَعِیْنَ

اور صحابہ اور اولیاء امت پر یوم

اِلٰی یَوْمِ الدِّیْنِ ط (روزانہ پڑھیں)

قیامت تک رحمت نازل فرما۔

## دُرُودِ اَوَّل

دُرُودِ اَوَّلِ اللّٰهِ تَعَالٰی نے سب سے زیادہ مقرب بنایا ہے۔ اس  
 دُرُودِ شَرِيفِ کو پڑھنے والا محروم نہ ہوگا۔ اس کا دُرُودِ كَرِيْمِ وَالِاِ اَعْلَانِيَه  
 یہ کہہ سکتا ہے کہ ”ناکامیابی نسبت“ دُرُودِ مَعْرِفَتِ كَيْ خِرَاتِ كِهْلَنِي كِي  
 کنجی ہے جو شخص اس دُرُودِ كُو رُوْرَانِه كَثْرَت سے پڑھے اس پر بہت  
 جلد روحانی و باطنی اسرار کے کھلنے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اور  
 سچی سے تیز دعا کو قبول کرنے والا دُرُودِ شَرِيفِ ہے۔ بیماری سے  
 نجات مل جاتی ہے۔ اس کے پڑھنے سے چھوٹ کی عادت  
 چھوٹ جاتی ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَفْضَلِ

اے اللہ دُرُودِ بِيْحِ اَدْبَرِ سَمَائِيْتِ سِرْوَارِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کے جو تیرے

اَنْبِيَاۡكَ وَاَكْرَمِ اَصْفِيَآئِكَ مِنْ

نبیوں میں افضل ہیں اور تیرے برگزیدہ بندوں میں سب سے زیادہ

# نُورِ جَبِيْعِ الْاَنْوَارِ وَصَاحِبِ

بزرگ ہیں جن کے نور سے تمام نور ظاہر ہوئے ہیں اور وہ

# الْبِعْجَزَاتِ وَصَاحِبِ الْمَقَامِ

معجزات والے ہیں اور مقام محمود والے

# الْبَحْرُودِ سَيِّدِ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ

ہیں اور اولین اور آخرین (سب) کے سرور ہیں

درود اول ایک ایسا علاج ہے جس کا ثانی نہیں۔ جس کی کوئی برابری کرنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس درود شریف کو اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت رکھنے والوں کے لیے بنایا ہے۔ یہاں بھی یہ درود اللہ تعالیٰ کے حکم سے لکھا گیا ہے۔ ورنہ اس سے پہلے کسی کو اس درود کا پتہ نہ تھا۔ سڑا باپرت درود شریف ہے۔ اس درود شریف کو کم از کم ۳۱۳ مرتبہ پڑھنے سے جو چاہے وہ ٹل سکتا ہے۔ کوئی بھی جائز سوال انشاء اللہ تعالیٰ رد نہ ہوگا۔ دعا واپس نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے والوں کو بہت اونچا مقام عطا فرماتا ہے۔

فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ زیادہ درود مجھ پر پڑھا کرو کیونکہ سب سے پہلے قبر میں تم سے میرے ہی بارے میں سوال ہوگا۔  
(معراج النبوت صفحہ ۱۲۳)

## دَرُودُ نُوْر

سُبْحَانَ اللّٰهِ یہ درود کیا ہے ایک اسمِ اعظم ہے۔ خداوند تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اپنے حبیب پر یہ درود خود اس دنیا میں ظاہر کیا ہے۔ اگر کوئی نیک دل ولی اللہ یا عارف باللہ بننا چاہے تو اس کو پڑھے جمعہ کے دن کم از کم ایک مرتبہ تو ضرور پڑھنا چاہیے۔ اس درود کو پڑھنے سے انشاء اللہ تعالیٰ دل میں نور پیدا ہوگا۔ جب اس کے پڑھنے کی عادت ہو جاتی ہے تو اسرارِ الہی کھلنے کے بعد اس آدمی کا کیا مرتبہ ہوگا وہ ہر کوئی جانتا ہے  
یہ درود نور کا نور ہے اس کے ایک ایک لفظ میں نور کے

سمندر سمائے ہوئے ہیں۔ صرف اس جگہ اتنا لکھنا کافی ہوگا کہ اس کی بدولت اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ایک ہی دن میں غوث اور قطب اور ابدال بناوے۔ اس درود شریف کو پڑھنے سے انشاء اللہ تعالیٰ

اس دنیا اور اس دنیا کے بیچ کا پر وہ اٹھ جاتا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نُّوْرٍ

اے اللہ درود بھیج ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نوروں

الْاَنْوَارِ وَسِرِّ الْاَسْرَارِ وَسَيِّدِ الْاَبْرَارِ ط

کا نور ہے جو اسراروں کا سر ہے اور جو ابراروں کا سردار ہے

## دُرُوْدِ طَيِّبٍ

اس درود شریف میں بہت سے راز ہیں جو پڑھنے سے کھلیں گے

یہ بہترین درود ہے اگر انسان گناہوں سے چمٹا رہے اور ہر طرف سے

نا کامی اور شرمندگی کا احساس ہو اور اس کا دل خود بخود گواہی دے

کہ ساری زندگی گناہوں میں گزری۔ اب آخری زندگی میں کیا خاک مسلمان

ہوں گا۔ اگر اس کا اپنا دل کہہ رہا ہے کہ اب ہنرا کے لیے تیار ہو جاؤ

چیز سے اس کو کوئی قائدہ اور کسی عالم، فقیر، عامل سے اس کو نصیب

نہیں پہنچتا تو وہ اس کو پڑھے۔

کم از کم دن میں ۳۱۳ مرتبہ ضرور پڑھا جائے اس میں حاضر کا صیغہ ہے بڑا زبردست درود شریف ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

صَلِّ اللّٰهُ عَلَیْكَ يَا شَفِیْعَ الْبَدِیْقِیْنَ

اللہ کی صلوٰۃ ہو آپ پر لے گنہگاروں کی شفاعت کرنے والے ہمارے

سَيِّدَانَا وَمَوْلَانَا أَحْمَدَ مَجْتَبِی

سرور اور آقا و مولا احمد مجتبیٰ

مُحَمَّدًا مُصْطَفٰی وَعَلٰی اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ

محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر اور آپ کے صحابہ

وَاَزْوَاجِهٖ وَاَحْبَابِهٖ وَذُرِّیَّاتِهٖ

اور آپ کی ازواج اور آپ کے احباب پر اور آپ کے رشتہ دار پر

وَاَهْلَ بَیْتِهٖ وَاَهْلَ طَاعَتِكَ

اور آپ کے اہل بیت پر اور تمام آپ کی اطاعت کرنے والوں پر

# اَجْبَعِيْنَ ط

سلام ہو

## دَرُودِ كُوْثَرِ

جس کو تمنا ہو کہ ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوض کوثر سے حب  
خواہش ساغر طے تو اس کو چاہیے کہ درود شریف کا کثرت سے درود کیے  
نہ فقط یہ بلکہ اس کو انشاء اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پیاس کی شدت  
نہیں ستائے گی۔ یہ درود شریف ایک مجرب دوا بھی ہے۔ اگر آدمی چاہے  
کہ گرمی کی تکلیف اور ملال قیامت میں نہ ستائے تو کثرت سے اس  
درود شریف کو پڑھے۔

حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے وقت کے زبردست  
ولی اللہ گذرے ہیں جن سے خود اللہ تعالیٰ بہت راضی تھا اور جن کے  
حضرت حبیب عجمی جیسے بزرگ ثنا گرو اور مرید تھے۔ انھوں نے فرمایا ہے  
کہ اگر کوئی انسان یہ تمنا رکھتا ہے کہ خدا کا قرب حاصل ہو تو وہ درود  
کوثر کو پڑھا کرے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ درود بھیج ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر

فِي الْأَوَّلِينَ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

اولین میں اور درود بھیج ہمارے سردار

مُحَمَّدٍ فِي الْآخِرِينَ وَصَلِّ عَلَى

محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آخرین میں اور درود بھیج ہمارے

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي النَّبِيِّينَ وَ

سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبیوں میں اور

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي

درود بھیج ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر

الرِّسَالَةِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

رسالت میں اور درود بھیج ہمارے سردار

مُحَمَّدٍ فِي الْبَلَدِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ملاً اعلیٰ میں قیامت کے دن تک



## دُرُودِ اَعْلٰی

کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بزرگ کو خواب میں دیکھا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم سے کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا کہ مجھ کو بخش دیا اور اعلیٰ سے اعلیٰ مرتبہ دیا۔ سب سے بڑی چیز تو یہ کہ میرا کوئی حساب کتاب نہ ہوا۔ امام صاحب نے فرمایا یہ کیوں؟ اس نے جواب دیا کہ یہ درود شریف جو میں پڑھتا تھا اس کی برکت ہے۔ جو شخص اسے ہمیشہ ورد رکھے گا تو تمام مخلوق سے ممتاز ہو کر رہے۔ بد امنی، راہ زنی، خوف، حادثات، چوری وغیرہ سے محفوظ رہے گا۔ واقعی اعلیٰ مرتبہ کا یہ درود شریف اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر احسان کر کے عطا فرمایا ہے خدا توفیق دے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا

دُرُودِ بَیْحِ ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسا کہ

# يَنْبَغِي الصَّلَاةُ عَلَيْهِ ط

درود بھیجنے کا حق ہے ان پر

## درود شافعی

اجیار العلوم میں مذکور ہے کہ ایک بزرگ ابوالحسن شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی سعادت حاصل کی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام شافعیؒ کو آپ کی بارگاہ سے کیا انعام ملا؟ انہوں نے اپنی کتاب الرسالت میں یہ درود شریف لکھا ہے۔

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

### صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ

اللہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام ذکر کرنے

### الذَّاكِرُونَ وَعَفَلَ عَنِ

ذکر کے ذکر جتنا اور ذکر سے غافل رہنے والے

# ذِكْرُهَا الْغَافِلُونَ ط

کے برابر درود صحیح

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کو ہماری جانب سے یہ انعام دیا گیا ہے کہ بروز قیامت ان کو بلا حساب جنت میں داخل کیا جاوے گا۔ (سبحان اللہ)

## درود غوثیہ

یہ وہ درود پاک ہے جس پر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اوراد و وظائف کو ختم کیا ہے۔ "مطلع المسرت" میں مذکور ہے کہ اکابر اولیاء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص روزانہ صبح و شام اس درود شریف کو دس بار پڑھے گا تو پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قریب و حضوری عطا فرمائے گا۔ اور اس آدمی پر رحمتوں کا نزول اس قدر ہوگا کہ جس کا کوئی حساب نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہریدی سے محفوظ رکھے گا اور ہر مسئلہ جلد آسان ہوگا اور ہر مشکل غیب سے آسان ہو جائے گی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

لے اللہ درود بھیجے ہمارے سرور حضرت محمد صلی اللہ علیہ

السَّابِقِ لِلْخَلْقِ نُوْرًا وَرَحْمَةً

وسلم پر جن کا نور ساری مخلوق سے پہلے پیدا ہو

لِلْعَالَمِيْنَ طَهْوْرَةً عَدَدَ مَنْ

اور ان کا ظہور تمام کائنات کے لیے رحمت ٹھہرا شمار

مَضَى مِنْ خَلْقِكَ وَمَنْ بَقِيَ

میں تمام اگلی اور پچھلی تیری مخلوق کے برابر اور ہر ایک نیک بخت

وَمَنْ سَعِدًا مِنْهُمْ وَمَنْ شَقِيًّا

اور بد بخت کی گنتی کے برابر ایسا درود جو

صَلٰوةٌ تَسْتَغْرِقُ الْعَدَا وَتَحِيطُ

شمار میں نہ آسکے اور تمام عدوؤں کا احاطہ کرے جس

بِهِ الْحَدَّ صَلَوةً رَاغَايَةً لَهَا وَ

درود کی نہ کوئی غایت ہو اور نہ انتہی اور

لَا مُمْتَنِي وَلَا الْقَضَاءَ صَلَوةً

نہ اختتام ایسا درود جو

دَائِمَةً بِدَوَامِكَ وَعَلَىٰ إِلَيْهِ وَ

ہمیشہ رہے تیرے دوام کے ساتھ اور ان کی اولاد

صَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا مِثْلَ ذَلِكَ

اور اصحاب پر اور اسی طرح ان پر خوب سلام نازل فرما

درود غوثیہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا

اے اللہ ہمارے سرور و آقا مولیٰ حضرت

مُحَمَّدٍ مَعْدِنِ الْجُودِ وَالْكَرَمِ

محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو جود و کرم کا خزانہ

# وَعَلَىٰ آلِهِ وَبَارِكُ وَسَلَّمَ ط

ہیں اور ان کی آلؑ پر درود برکت اور سلام بھیج

## دُرُودِ مُحَمَّدِي صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

یہ ایک ایسا درود شریف ہے جو ہر کام کے لیے ایک عجیب طاقت ہے۔ درودِ محمدی کے راز کو اب تک کوئی نہیں جان سکا۔

حضرت پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اُمت پر ایک نہیں، کروڑوں احسانات ہیں۔ بلکہ اس سے بھی زیادہ یہ کہ ہم بدکار گنہگار اور غافل ہو کر سُستی اور کاہلی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ مگر حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت درگاہِ ایزدی میں اپنی گنہگار اُمت کے بخشوانے کے لیے کوشاں ہیں۔ یہ دن میں ایک بار بھی یہ درود شریف پڑھ لیں، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ دس مرتبہ پڑھنے والے پر چھتیس نازل فرمائے گا۔ اس کے دس گناہ معاف فرمائے گا اور دس نیکیاں دے گا۔ ساتھ ساتھ اس کے دس درجات بلند فرمائے گا۔

آج تک اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو طاقت نہیں کہ اس درود شریف کے فوائد یا فضائل بیان کر سکے بلکہ اس درود شریف کو عارفانِ وقت نے "درودِ اعظم" کہہ کر پکارا ہے۔

دُرُودِ مُحَمَّدِي اللّٰهُ تَعَالٰے كِي بِنْدُوں پَر نِعْمَتِ هے۔ اس دُرُودِ شَرِيفِ  
سے قَائِدَه اٹھايے۔ اور اپنے گناہ بختواليے۔

دُرُودِ مُحَمَّدِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ

اے اللہ درُود بھیج ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم

عَلَى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ

اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر جو ہیں بندے

وَمَا سَوَّلَكَ النَّبِيَّ الْاِمِّيَّ بَعْدَ

رسول نبی امی اس مقدار میں کہ تعداد

اَنْفَاسِ الْخَلَائِقِ صَلَوَةٌ دَائِمَةٌ

ہو اتنی جتنی مخلوق سانس لیتی ہے درُود اتنا جب

يَدُوْا مِنْ خَلْقِ اللّٰهِ ط

تک قائم رہے اللہ کی مخلوق

صَلَّىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
مَحْمُودٌ

حضرت نبی کریم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ کی زیارت کا نسخہ

① جذب القلوب میں ہے کہ جو شخص پاکی اور طہارت کے ساتھ اس درود شریف کو کم از کم ۳۱۳ مرتبہ پڑھا کرے گا حق تعالیٰ خواب میں حضور نبی کریم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ کی زیارت پاک سے مشرف فرمائے گا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَاٰلِہٖ

وَسَلِّمْ کَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰی لَہٗ ط

② مَفاہِیْرُ الْاِسْلَام میں ہے کہ جو کوئی جمعہ کے روز ہزار بار یہ

درود شریف پڑھے گا۔

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ النَّبِیِّ



## الْاُمِّيُّ

تو حضور سرور کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت پاک سے مشرف ہوگا۔ یا جنت میں اپنی جگہ دیکھ لے گا۔ کم از کم پانچ جمعہ تک یہ عمل کرے (۳) جامع التفاسیر میں کہ جو کوئی جمعہ کی شب کو دو رکعت نفل پڑھے اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ (الحمد شریف) کے بعد گیارہ مرتبہ آیتہ بقرہ اور گیارہ بار قل هو اللہ احد پڑھے اور بعد از سلام سو بار یہ دُرد شریف پڑھے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ النَّبِیِّ

الْاُمِّيِّ وَاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَسَلَّمَ

تو انشاء اللہ تعالیٰ تین جمعوں تک حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت پاک سے مشرف ہوگا۔

(۴) جمعہ کی شب کو دو رکعت نماز ادا کرے۔ ہر رکعت میں الحمد

شرفی کے بعد ۲۵ مرتبہ قل ہو اللہ احد پڑھے اور سلام کے بعد  
ایک ہزار مرتبہ یہ درود شریف پڑھے۔

صَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأَرْمِيِّ -

پانچ جمعوں کے اندر اندر انشاء اللہ تعالیٰ زیارت حضور پاک صلی اللہ  
علیہ وآلہ وسلم نصیب ہو جائے گی۔

دُرُودِ رِضْوِيَّةِ

اعلیٰ حضرت امام اہلسنت شاہ احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے  
یہ درود شریف ترتیب دیا ہے اس کی خوبی یہ ہے کہ تین مختصر  
درودوں کو یکجا کر دیا گیا ہے۔ لہذا جو شخص ایک مرتبہ یہ درود شریف  
پڑھے گا وہ حقیقتاً تین مرتبہ درود پڑھنے کے ثواب کا حق دار ہوگا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

صَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأَرْمِيِّ وَ

لے اللہ اپنے اسی نبی پر درود بھیج اور

إِلَيْهِ وَأَصْحَابِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

ان کی آلؑ پر اور اصحابؑ پر اے اللہ سلامتی ہو

وَسَلَّمَ صَلَاةً وَسَلَامًا عَلَيْكَ

اللہ کے رسول آپ پر صلوة ہو

يَا رَسُولَ اللَّهِ

اور سلام

دَرُودُ شِفَاءِ قُلُوبٍ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم والا ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى

اے اللہ درود بھیج ہماری سرور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو

سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا طَيِّبًا

دوں کے طیب اور ان کی دوا ہیں

الْفُلُوبِ وَدَوَائِهَا وَعَافِيَةَ

اور جسم کی عافیت اور ان کی شفا

الْأَبْدَانِ وَشِفَائِهَا وَنُورَ الْأَبْصَارِ

ہیں اور آنکھوں کا نور

وَضِيَاءِهَا وَالْإِلَهَ وَصَحْبَهُ دَائِمًا

اور ان کی چمک ہیں اور آپ کی آل اور اصحاب پر ہمیشہ

أَبَدًا ط

ابدیت تک درود و سلام بھیج

درود شفا گیارہ بار پڑھ کر جس مریض پر دم کرے شفا ہو۔ پیٹ کے  
امراض میں پانی پر دم کر کے پلا میں۔ اعتناق الرحم، باؤ گولاد و دیگر  
ریاحی امراض، درودوں میں ہیرا ہینگ پر دم کر کے گہوں برابر  
ایک چمچ گرم پانی میں گھول کر مریض کو پلا میں۔ بیہوش مریض  
کی تاک میں بھی دو قطرے ڈالیں فوراً ہوش آجائے گا۔


# دَرُودِ مُقَدَّسِ

جو مسلمان خواہ مرد ہو یا عورت اس دَرُودِ مُقَدَّسِ کو تعظیم و تکریم اور نیک عقیدہ کے ساتھ پڑھے گا اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کی تمام دینی، اخروی اور دنیاوی حاجتیں، مقاصد اور مطالب پورے ہوں گے۔ اس دَرُودِ مُقَدَّسِ کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ خوب دل لگا کر اللہ تعالیٰ کے لیے دُعا کرے، پاک اور صاف کپڑے خوشبو لگا کر پہنے۔ اس کے بعد مسجد میں یا کسی دوسری پاک اور صاف جگہ میں گیارہ بار دَرُودِ مُقَدَّسِ قبلہ رخ بیٹھ کر خُشُوع و خُشُوع کے ساتھ پڑھے اور اس کا ثواب سرور کائنات فخرِ موجدِ ذاتِ سرورِ عالم، سید الانبیاء رسولِ خدا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رُوحِ اقدس کو بخشے۔ اس کے بعد جو نیک دُعا ہو اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگے اللہ کے فضل سے اس کی دُعا بارگاہِ الہی میں مقبول ہوگی۔


دَرُودِ مُقَدَّسِ پڑھنے سے پہلے تین بار مع بسم اللہ کے

اسے پڑھیں۔ اس کے بعد دَرُودِ مُقَدَّسِ پڑھیں۔

(دوسری طرف)



# الْقُرْآنُ الْحَكِيمُ



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ

عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ

عَلَيْكُمْ بِالْبُؤْسِ مِّنِينِ رَوْفٌ

رَحِيمٌ ۝ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَعَلَّ حَسْبِيَ

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ

وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۝

صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ

# دَرُودِ مَعْدَسِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

یَا اِلٰهٰی یَحْرُمُتِ اَقْوَالِ سَیِّدِنَا

یا الہی بھرت اقوال سردار

مُحَمَّدٍ وَاَفْعَالِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ

محمد اور افعال سردار محمد اور

اَحْوَالِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاَصْحَابِ

احوال سردار محمد اور اصحاب

سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْهِ

سردار محمد صلی اللہ علیہ

وَسَلَّمَ یَا اِلٰهٰی یَحْرُمُتِ بَدَنِ

وسلم یا الہی بھرت بدن

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَطْنِ سَيِّدِنَا

سردار محمد اور بطن سردار

مُحَمَّدٍ وَبَرَكَتِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

محمد اور برکت سردار محمد اور

بَيْعَةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبِرَائِ سَيِّدِنَا

بیعت سردار محمد اور براق سردار

مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ط

محمد صلی اللہ علیہ وسلم

يَا إِلَهِي بِحُرْمَةِ تَوْلِدِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے الہی بحرمت تولد سردار محمد

وَتَعْبُدِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَتَهْجِدِ

اور تعبد سردار محمد اور تہجد

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم

يَا إِلَهِي بِحُرْمَةِ ثَنَاءِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے الہی بحرمت ثنا سردار محمد



وَتُوَابِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَثَمَالِ

اور ثواب اور محمد اور ثمال

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم

يَا إِلَهِي بِحَرَمَةِ جَلَالِ سَيِّدِنَا

اے الہی بحرمت جلال سردار

مُحَمَّدٍ وَجَبَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

محمد اور جمال سردار محمد اور

جَلِّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَوَجْهَةِ سَيِّدِنَا

جل (شان والا) سردار محمد اور وجہ سردار

مُحَمَّدٍ وَجَعِدِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى

محمد اور جعد (گیسو) سردار محمد صلی

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا إِلَهِي بِحَرَمَةِ

اللہ علیہ وسلم اے الہی بحرمت

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَحُسْنِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

سردار محمد اور حسن سردار محمد

وَحَسَنَاتِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَحُرْمَةِ

اور حسنت اور سردار محمد اور حرمت

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَحَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

سردار محمد اور حال سردار محمد

وَحَلِيَّةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ

اور علیہ سردار محمد صلی اللہ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا إِلَهِي بِحُرْمَةِ سَيِّدِنَا

علیہ وسلم کے الہی بحرمت سردار

مُحَمَّدٍ وَخَلْقِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

محمد اور خلق سردار محمد اور

خَلْقِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَخُطْبَةِ سَيِّدِنَا

خلق سردار محمد اور خطابت سردار

مُحَمَّدٍ وَخَيْرَاتِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى

محمد اور خیرات سردار محمد صلی

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا إِلَهِي بِحُرْمَةِ

اللہ علیہ وسلم کے الہی بحرمت

دین سیدنا محمدؐ و دینا سیدنا

دین سرور محمدؐ اور دیانت سرور

محمدؐ و دولت سیدنا محمدؐ و

محمدؐ اور دولت سرور محمدؐ اور

درجات سیدنا محمدؐ و دعاء

درجات سرور محمدؐ اور دعا

سیدنا محمدؐ صلی اللہ علیہ وسلم

سرور محمدؐ صلی اللہ علیہ وسلم

یا الہی بخرمۃ ذات سیدنا محمدؐ و

اے الہی بخرمت ذات سرور محمدؐ اور

ذکر سیدنا محمدؐ و ذوق سیدنا

ذکر سرور محمدؐ اور ذوق سرور

محمدؐ صلی اللہ علیہ وسلم یا الہی

محمدؐ صلی اللہ علیہ وسلم اے الہی

بخرمۃ روح سیدنا محمدؐ و راس

بخرمت روح سرور محمدؐ اور راس

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَرِزْقِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

سردار محمد اور رزق سردار محمد

وَرَفِيقِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَرِضَاءِ سَيِّدِنَا

اور رفیق سردار محمد اور رضاء سردار

مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا إِلَهِي

محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا الہی

يَحْرِمُهُ زَهْرَةَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَزَهَادَةَ

بحرمت زہد سردار محمد اور زہادہ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَزَهْرَةَ سَيِّدِنَا

سردار محمد اور زہرہ سردار

مُحَمَّدٍ وَزَيْنَتِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى

محمد اور زینت سردار محمد صلی

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا إِلَهِي بِحْرَمَةِ

اللہ علیہ وسلم یا الہی بحرمت

سَيِّادَةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَسَعَادَةِ سَيِّدِنَا

سیادت سردار محمد اور سعادت سردار

مُحَمَّدٌ وَوَسِيئَتُهُ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٌ وَسِرِّ

محمدؐ اور سنتؐ سرورؐ محمدؐ اور سترؐ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٌ وَسَلَامٌ سَيِّدِنَا

سرورؐ محمدؐ اور سلامؐ سرورؐ

مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

محمدؐ صلی اللہ علیہ وسلم

يَا إِلَهِي بِحُرْمَةِ شَرِّعِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

یا الہی بحرمتؐ شرعؐ سرورؐ محمدؐ

وَشَرَفِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَشَوْقِ

اور شرفؐ سرورؐ محمدؐ اور شوقؐ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَشَادِي سَيِّدِنَا

سرورؐ محمدؐ اور شادؐ سرورؐ

مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

محمدؐ صلی اللہ علیہ وسلم

يَا إِلَهِي بِحُرْمَةِ صِدْقِ سَيِّدِنَا

یا الہی بحرمتؐ صدقؐ سرورؐ

مُحَمَّدٌ وَأَوْصِيَائِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٌ وَ

محمدؐ اور اوصیاءؑ سرورؑ محمدؐ اور

صَلَوَاتٍ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَصَفَاءِ

صلواتِ سرورؑ محمدؐ اور صفاءِ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

سرورؑ محمدؐ صلی اللہ علیہ وسلم

يَا إِلَهِي بِحَرَمَةِ ضِيَاءِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ایہ الہی بحرمتِ ضیاءِ سرورؑ محمدؐ

وَضِيْرِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَضَخَاءِ

اور ضمیر سرورؑ محمدؐ اور ضخاءِ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَضِيَّافِ سَيِّدِنَا

سرورؑ محمدؐ اور ضیافِ سرورؑ

مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا

محمدؐ صلی اللہ علیہ وسلم

إِلَهِي بِحَرَمَةِ طَلْعَةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

الہی بحرمتِ طلعتِ سرورؑ محمدؐ

وَطَهَارَةَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ﷺ وَطَهْرٍ

اور طہارۃ سردار محمد اور طہر

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ﷺ وَطَرِيقِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ﷺ

سردار محمد اور طریق سردار محمد

وَطَوَافِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ﷺ صَلَّى اللهُ

اور طواف سردار محمد صلی اللہ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اِلٰهِي بِحُرْمَةِ ظَاهِرِ

علیہ وسلم ای الہی بحرمت ظاہر

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ﷺ وَطَهْرٍ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ﷺ

سردار محمد اور ظہر سردار محمد

وَطَلِّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ﷺ وَطَهْرِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ﷺ

اور ظل سردار محمد اور ظہور سردار

مُحَمَّدٍ ﷺ وَظَفْرِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ﷺ صَلَّى اللهُ

محمد اور ظفر سردار محمد صلی

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اِلٰهِي بِحُرْمَةِ

اللہ علیہ وسلم ای الہی بحرمت

عَشِقْ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَعِرْفَانَ سَيِّدِنَا

عشق سردار محمدؐ اور عرفان سردار

مُحَمَّدٍ وَعِلْمِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعُلُقِ

محمدؐ اور علم سردار محمدؐ اور علق

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَوْنِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

سردار محمدؐ اور عون سردار محمدؐ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَلَهِي

صلی اللہ علیہ وسلم اے الہی

بِحُرْمَةِ غُرْبَةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَارِ

بحرمت غزبت سردار محمدؐ اور غار

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَزِيمِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

سردار محمدؐ اور عزیز سردار محمدؐ

وَعِزَّتِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَغَنِيمَتِ سَيِّدِنَا

اور عزت سردار محمدؐ اور غنیمت سردار

مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَلَهِي

محمدؐ صلی اللہ علیہ وسلم اے الہی



بِحُرْمَةِ قُرْبِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَقَدْرِ

بحرمت قُرب سَردار محمّد اور قدر

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَقَنَاعَةِ وَقُوَّةِ سَيِّدِنَا

سَردار محمّد اور قناعت اور قوت سَردار

مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَلَهِي

محمّد صلی اللہ علیہ وسلم اے الہی

بِحُرْمَةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَفَقْرِ سَيِّدِنَا

بحرمت سَردار محمّد اور فقر سَردار

مُحَمَّدٍ وَفِرَاقِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

محمّد اور فراق سَردار محمّد اور

فَضْلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَفَضِيلَةِ

فضل سَردار محمّد اور فضیلت

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

سَردار محمّد صلی اللہ علیہ وسلم

يَا أَلَهِي بِحُرْمَةِ كَلَامِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے الہی بحرمت کلام سَردار محمّد

وَكَشَفِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَكِيَا سَةِ سَيِّدِنَا

اور کشف سردار محمد اور کیاست سردار

مُحَمَّدٍ وَكِتَابَةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَكُنْيَةِ

محمد اور کتابت سردار محمد اور کنیت

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم

يَا إِلَهِي بِحُرْمَةِ لَيْلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے الہی بحرمت لیل سردار محمد

وَلِقَاءِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَلِيَا قَةِ سَيِّدِنَا

اور لقاء سردار محمد اور لیاقت سردار

مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا إِلَهِي

محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے الہی

بِحُرْمَةِ مِعْرَاجِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

بحرمت معراج سردار محمد اور

مُجَاهِدَاتِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

مجاہدات سردار محمد اور

مَشَاهِدَاتِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ﷺ وَمُلاحِظِ

مشاہدات سرور محمد اور ملاحظہ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ﷺ وَمَسَاحَةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ﷺ

سرور محمد اور مساحت سرور محمد

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا إِلَهِي بِحَرَمِهِ

صلی اللہ علیہ وسلم اے الہی بحرمت

نُورِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ﷺ وَنُورِ سَيِّدِنَا

نور سرور محمد اور نور سرور

مُحَمَّدٍ ﷺ وَنَصِيرِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ﷺ وَنَفِيرِ

محمد اور نصیر سرور محمد اور نفیر

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ﷺ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

سرور محمد صلی اللہ علیہ وسلم

يَا إِلَهِي بِحَرَمِهِ وَدُودِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ﷺ

اے الہی بحرمت و دود سرور محمد

وَوَقَائِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ﷺ وَوَجُودِ سَيِّدِنَا

اور وقایع سرور محمد اور وجود سرور

مُحَمَّدٍ وَوَدِيعَةَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى

محمدؐ اور ودیعت سردار محمد صلی

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا إِلَهِي بِحُرْمَةِ

اللہ علیہ وسلم اے الہی بحرمت

هَيْبَةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَهُدَايَةِ سَيِّدِنَا

ہمت سردار محمدؐ اور ہدایت سردار

مُحَمَّدٍ وَهُدَايَةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى

محمدؐ اور ہدایت سردار محمد صلی

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا إِلَهِي بِحُرْمَةِ

اللہ علیہ وسلم اے الہی بحرمت

يَوْمِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَيَسِّرِ سَيِّدِنَا

یوم سردار محمدؐ اور یسر سردار

مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا

محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں

إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

ہے کوئی معبود مگر اللہ محمدؐ رسول ہیں صلی

اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

اللہ علیہ اور آلِ آپؐ اور صحابہؓ پر سلام ہو

بَعْدَ مَا هُوَ الْمَكْتُوبُ فِي اللُّوحِ وَ

بعد اس تعداد کے مطابق جو لوح و

الْقَلَمِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ وَسَاعَةٍ

قلم میں لکھی ہوئی ہے ہر دن اور رات اور ہر ساعت

وَنَفْسٍ وَمَحْيَا الْفِ الْفِ مِئَةِ الْفِ

اور سانس میں اور دس کروڑ مرتبہ یوم

مَرَّةٍ إِلَى يَوْمِ الْعِلْمِ الْآلِ الْآنَ أَوْلِيَاءَ

علم یعنی قیامت تک آگاہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے

اللَّهُ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

دوستوں پر نہ تو کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ ہی وہ غمزدہ

يَرْحَمُكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ○

ہوں گے۔ تیری رحمت کے ساتھ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے



## دُرُودِ خِضْرِي

یہ دُرُودِ شَرِيفِ الْفَاظِ کے لحاظ سے بہت مختصر ہے لیکن معنی کے لحاظ سے بہت جامع ہے یہ اولیاءِ اکرام کا اکثر معمول ہے۔ سکونِ قلب کی دولت سے مالا مال جاتا ہے۔ یہ دُرُودِ شَرِيفِ نَفْسِ بِنْدِيہ سلسلہ کا معمول ہے۔

صَلَّى اللهُ عَلَى حَبِيبِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَ

اے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل اور

اصحابہ وَسَلَّمَ

ان کے اصحاب پر سلام اور دُرُودِ بھج

## دُرُودِ نِعْمَتِ عَظْمَى

اس دُرُودِ شَرِيفِ کے پڑھنے سے انسان کے گناہ مٹ جاتے ہیں اور دلی خواہشات پوری ہوتی ہیں قلب و روح کو تروتازگی ملتی ہے۔ دلی حاجات پوری ہوتی ہیں۔ اس دُرُودِ شَرِيفِ کو ہر نماز کے بعد ایک بار ضرور پڑھیے۔ فیوض و برکات کی نعمتوں سے مالا مال ہو گے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

لے اللہ ہمارے سرور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سرور

أٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَصْحَابِ

محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

کے صحابہ پر درود برکت اور سلام بھیج

دَرُودِ اِمَامِ بُوَصِيْرِي

یہ درود امام بوسیری کے قصیدہ بردہ شریف کا پتھر ہے۔ بے پناہ دینی  
و دنیاوی فوائد ہیں اس کے پڑھنے والے کی دس نیکیاں لکھ دیتا ہے اس کے  
دس درجے بلند کر دیتا ہے اور دس گناہ مٹا دیتا ہے۔

مَوْلَايَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا

لے میرے مولا تو اپنے حبیب پر ہمیشہ ہمیشہ درود

عَلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ

سلام بھیج جو تیری مخلوق میں سب سے بہتر ہیں

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِبًا اَبَدًا

اے پروردگار تو اپنے حبیبِ بسیب پر ہمیشہ درود و سلام

عَلَىٰ حَبِيبِكَ خَيْرَ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ

بھیج جو تیری مخلوق میں سب سے اچھے ہیں

دُرُودُ مُسْتَجَابِ الدُّعَوَاتِ

یہ درود تنگ دہی اور مفلسی دور کرنے کی نیت سے پڑھے تو اللہ تعالیٰ  
اسے اپنے حفظ و امان میں رکھے گا۔ عظیم نعمتوں سے مالا مال فرمائے  
گا۔ روزانہ کم از کم گیارہ دفعہ پڑھا جائے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ  
وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرت ہوگا۔ روزانہ گیارہ مرتبہ پڑھنے سے  
دینی و دنیوی نعمتوں سے مالا مال ہوگا۔

صَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأَمِيِّ الْكَرِيمِ وَ

اے اللہ اپنے امی کریم نبی پر اور ان کی آل پر اور

عَلَىٰ آلِهِ وَاصْحَابِهِ وَسَلَّمَ ط

ان کے صحابہ پر رحمت اور سلامتی نازل فرما



## دُرُودِ مَحَبَّتِی

یہ دُرُود اکثر تہجد کے وقت ایک ہزار مرتبہ پڑھنے سے دلی مراد پوری ہو گی۔ اور دینی و دنیاوی نعمتوں سے مالا مال ہوگا۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى حَبِيبِكَ

اے اللہ دُرُود بھیج اور برکت بھیج اپنے مقبول

الْحَبِيبِ وَرَسُولِكَ الْبَرْتَضَى وَعَلَى

حبیب پر اور اپنے برگزیدہ رسول پر اور آپ

إِلَيْهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ ط

کی آل پر اور تمام اصحاب پر

## دُرُودِ تَعَلُّقِ

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص مجھے بہت پسند

ہے جو مجھ پر کثرت سے دُرُودِ شَرِيفِ پڑھے۔ وہ حضور کی نگاہ پر انور کی

پدولت ظاہری اور باطنی طور پر پاکیزہ ہو جائے گا۔ اور قیامت کے روز حضور کے ساتھ ہوگا۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى رَسُولِكَ

اے اللہ درود سلام اور برکت بھیج اپنے رسول رحمت العالمین

الْبِعُوثِ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وَعَلَى

پر جو مبعوث کیے گئے اور آپ کی آل

إِلَيْهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ ط

اور صحابہ پر بھی

## درود کشف

اس درود شریف کے پڑھنے سے باطنی اور پوشیدہ راز کھل جائیں گے  
اس کو پڑھنے سے اللہ پاک اس پر رحمت کی بارش کر دے گا۔ اور اس کے  
گناہ معاف کر دے گا۔ اس کے رزق مال و دولت میں خیر و برکت  
ہوگی۔ اس کا خاتمہ بالایمان ہوگا۔ قیامت کے روز اسے آپ کی  
شفاعت نصیب ہوگی۔

صَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّ الرَّحْمَةِ شَفِيعِ

اے اللہ اپنے نبی رحمت کی شفاعت کرنے والے

الْأُمَّةِ كَاشِفِ الْغَمِّ وَعَلَى آلِهِ وَ

اور پوشیدہ بھیدوں کے کھولنے والے پر اور ان کی آل اور

# اصحابہ وبارک وسلم

اصحاب پر درود برکت اور سلام بھیج

## درود حل المشکلات

یہ درود شریف تمام مشکلات کو حل کر دیتا ہے اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد دو رکعت نماز نفل پڑھے پہلی رکعت میں الحمد شریف کے بعد قل یا ایہا الکفر ون اور دوسری رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورہ قل هو اللہ پڑھیں اس کے بعد ایک ہزار مرتبہ یہ درود شریف پڑھ کر دعا کریں قبول و منظور ہوگی۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا

اے اللہ ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام

مُحَمَّدٍ قَدْ صَاقَتْ حَبْلِي أَدْرَاكِي

اور برکت بھیج یا رسول اللہ میری سفارش کیجئے میرا حیلہ اور

يَا رَسُولَ اللَّهِ

کوشش تنگ آچکے ہیں

## دُرُودِ عَالِي

یہ دُرُودِ شَرِيفِ آپ کی دینی و دنیاوی حاجات کو پورا کرنے کا اکسیر  
تحتفہ ہے۔ فتح و نصرت کا بہترین نسخہ ہے۔ ہر روز تہجد کی نماز کے بعد  
سات سو مرتبہ پڑھے۔ دلی مراد پوری ہوگی۔ مقدمہ میں کامیابی ہوگی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰی

اے اللہ دُرُود و سلام اور برکت عطا فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْاِمِّيِّ

امی نبی ہمارے سرور محمد صلی اللہ علیہ وسلم

الْحَبِیْبِ عَالِي الْقَدْرِ عَظِيْمِ الْجَاهِ

جو تیرا حبیب عالی قدر عظیم مرتبے والا ہے

وَعَلٰی اٰلِهِمْ وَصَحْبِهِمْ وَسَلَّمَ

اور آپ کی آل اور صحابہ پر سلامتی عطا فرما

اس دُرُودِ شَرِيفِ کو ہر جمعرات اور جمعہ کی رات کو کم از کم ایک مرتبہ ہی پڑھے گا،  
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوگا۔

## دُرُودِ کَمَالِیَہ

صوفیائے کرام اس دُرُودِ کَمَالِیَہ کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ اللہ کا مقبول بندہ بننے کے لیے اسے دس مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھنا چاہیے۔ تمام روحانی اسرار کھل جائیں گے۔ بے پناہ ثواب ہوگا۔ کسی قسم کی بیماری ہو شفا پائے گا۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا

اے اللہ ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی کامل پر

مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْكَامِلِ وَعَلَى آلِهِ

اور آپ کی آل پر درود سلام اور برکتیں بھیج

كَمَا لَانْهَاءَ لِكَمَالِكَ وَ

ایسی جیسی کہ تیرے کمال کی انتہا نہیں اور نبی پاک

عَدَدَ كِبَالِهِ ۝

کے کمال کا شمار نہیں

ہنسیان کی بیماری کے لیے اکثر پڑھا کریں۔

## دُرُودِ قُطْبِ

اسے پڑھنے سے بہت سے اسرار کا انکشاف ہوتا ہے۔ حضرت احمد  
 بدویؒ کا یہ دُرُودِ انوارِ الہی کے حصول کا سبب ہے۔ جو شخص چالیس دن تک  
 روزانہ ایک سو بار اس دُرُودِ پاک کو پڑھے تو اسے بے پناہ انوارِ الہیہ کا فائدہ  
 ہوگا۔ رزق میں اضافہ ہوگا۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى نُورِ الْأَنْوَارِ وَسِرِّ

یا الہی۔ نور الانوار اور اسراروں کے راز کھولنے والے

الْأَسْرَارِ وَتَرِيَاقِ الْأَخْيَارِ سَيِّدِنَا

اور اخیار کے تریاق سیدنا محمد صلی اللہ علیہ

مُحَمَّدٍ الْبَخْتَارِ وَالْإِطْهَارِ وَ

وسلم اور ان کی آل اطہار اور

أَصْحَابِهِ الْأَخْيَارِ عَدَدِ نِعَمِ اللَّهِ

اور ان کے اچھے صحابہ پر رحمت نازل فرما اللہ کی

وَأَفْضَالِهِ ط

بے پناہ نعمت اور فضل عطا ہو

# دُرُودِ نُوْرِي

جو شخص اس دُرُودِ شَرِيفِ كُو كَثْرَت سے پڑھے گا تو وہ اسرارِ الٰہی کے  
مخفی اثرات سے نورانی تجلیات کا فیض یاب ہوگا دل روشن ہوگا۔  
اللہ کی بہت رحمت ہوگی اس کے پڑھنے سے کئی قسم کی امراض سے محفوظ  
رہے گا اپنے نفس کی اصلاح کے لیے اس دُرُودِ شَرِيفِ كُو بعد نماز  
فجر، مرتبہ پڑھنا بہت مفید ہے۔

يَا نُوْرُ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نُوْرٍ

اے نور درود بھیج ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو

الْاَنْوَارِ وَسِرِّ الْاَسْرَارِ وَسَيِّدِ الْاَبْرَارِ

نوروں کا نور ہے جو اسراروں کا سر ہے اور ابراروں کا سردار

وَعَلَىٰ اٰلِهِ وَصَحْبِهِ السَّلَامِ وَبَارِكْ

ہے اور ان کی آل اور صحابہ پر جو منور ہیں اور برکت

وَسَلِّمْ اَللّٰهُمَّ نُوْرًا بِهَا سِرِّي وَسِرِّي

سلام بھیج اے اللہ منور کر دے میری رُوح اور جسم کو

وَبَصِيرَتِي وَدُنْيَايَ وَ

اور میری آنکھوں کو اور میری بصیرت کو اور میرے دین اور

أَهْلِي وَعِيَالِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

دنیا کو اور میرے اہل و عیال کو روز قیامت تک

## دُرُودِ تَقْسِيمِيَّةٍ

یہ درود سلسلہ تقسیمیہ میں پڑھا جاتا ہے اس کے پڑھنے سے بے پناہ فیوض و برکات حاصل ہوتے ہیں۔ تزکیہ نفس کے لیے نہایت مجرب نسخہ ہے۔ تسبیح خلق کی نیت سے ۱۱۱ بار پڑھے تو دنیا اس کے

یہ مسخر ہو جائے گی۔

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيَّ

اے اللہ ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ ہمارے

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نَبِيِّنَا الْأَنْبِيَاءِ وَ

سرفارہ انبیاء کے روشن چراغ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور

نَبِيِّ الْأَوْلِيَاءِ وَزَيْرِقَانِ الْأَصْفِيَاءِ

اولیاء کے آفتاب اور برگزیدہ بندوں کے ماہ و چشمان



# وَنُورِ الثَّقَلَيْنِ وَضِيَاءِ الْخَافِقِينَ

اور ثقلین کے سورج اور مشرق و مغرب کی ضیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج

## دَرُودُ الْعَابِدِينَ

اس درود شریف کو بکثرت پڑھنے سے انشاء اللہ اس پر کمالات کشف  
کھل جائیں گے روحانی درجات بلند ہوں گے۔ ہر قسم کی کامیابی قدم  
چومے گی۔ ہر نماز کے بعد ۲ مرتبہ روزانہ پڑھے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

لے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر

مُحَمَّدٍ مَلَأَ الدُّنْيَا وَمِلَأَ الْآخِرَةَ

اتنی رحمت نازل کر کہ دنیا اور آخرت بھر جائے

وَأَرْحَمَ مُحَمَّدًا وَآلِ مُحَمَّدٍ مَلَأَ الدُّنْيَا

اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کو اتنی جزا دے کہ

وَمِلَأَ الْآخِرَةَ وَأَجْزِمُ مُحَمَّدًا وَآلِ

اس سے دنیا اور آخرت بھر جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور

مُحَمَّدٍ مِّنَ الدُّنْيَا وَمِنَ الْآخِرَةِ وَ

اور ان کی آل پر اتنی

سَلَّمَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

سلامتی عطا کر کہ دونوں جہاں

مِنَ الدُّنْيَا وَمِنَ الْآخِرَةِ ط

بھر جائیں

## دُرُودِ افْضَلٍ

مشکلات کے حل کے لیے دُرُودِ افْضَلِ نماز فجر کے بعد سو دفعہ ۴۰ دن پڑھے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ

اے اللہ درود بھیج ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تیرا

وَنَبِيِّكَ وَرَسُولِكَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَ

بندہ اور تیرا نبی اور تیرا رسول نبی اتنی ہے اور

عَلَى آلِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ وَسَلَّمَ

آپ کی آل پر آپ کی ازواج پر اور آپ کے شہتہ داروں پر

عَدَدَ خَلْقِكَ وَرِضَاءَ نَفْسِكَ وَزِنَةَ

اور خلقت اور خلاق کے برابر اور اپنی ذات کی رضا کے مطابق

عَرْشِكَ وَمِدَادَ كَلِمَاتِكَ ط

اور اپنے عرش کے وزن کے مطابق اور کلموں کی سیاہی کے مطابق سلام ہو

## دُرُودِ شَافِي

اس دُرُودِ پَاک کو ایک مرتبہ پڑھنے سے ایک لاکھ دُرُودِ کَا ثَوَاب ملے گا۔  
اس کے پڑھنے سے باطنی التورات حاصل ہوں گے اگر کوئی حاجت درپیش  
ہو تو اس دُرُودِ شَرِيف کو پانچ سو بار روزانہ پڑھیں تمام مشکلیں آسان ہوں  
گی۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّوْرِ

یا اللہ درود بھیج ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو

الذَّاتِي السَّارِي فِي جَمِيعِ الْاَشَارِ وَالْاَسْمَاءِ

نور ذاتی ہیں تمام اسماء و اشار صفت میں سران کیے ہوئے ہیں اور

وَالصِّفَاتِ وَعَلَى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ ط

ان کی آل اور اصحاب پر سلام بھیج

## دُرُودِ نَجَاتِ وَبَا

اس دُرُودِ شَرِيفِ كُثْرَتِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سے بچا رہے گا۔ سب مل کر سو الاکھ دُرُودِ پڑھا جائے تو پورا گاؤں و با سے محفوظ رہے گا۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اے اللہ دُرُودِ بھیج ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سردار

أٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ كُلِّ دَاعٍ وَ

محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر مطابق تمام بیماریوں کی دوا کے اور

دَوَائِهِ وَبِعَدَدِ كُلِّ عِلَّةٍ وَشَفَاءِ ط

تمام علت و شفا کی تعداد کے مطابق

## دُرُودِ حُبِّ سُوْلِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

جو شخص یہ چاہے کہ اس کے دل میں آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے پناہ محبت پیدا ہو جائے تو اسے چاہیے کہ کثرت سے یہ دُرُودِ شَرِيفِ پڑھے۔ قیامت کے روز حضور کے سایہ تیلے ہوگا۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَحَبِيبِنَا وَ

اے اللہ ہمارے سردار ہمارے حبیب اور

مَحْبُوبِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ

ہمارے محبوب اور ہمارے آقا و مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر

وَسَلِّمْ

درود برکت اور سلامتی ہو

دُرُودِ مُحَمَّدٍ

یہ درود پاک پڑھنا خیر و برکت کا باعث ہے جو شخص یہ چاہے کہ گھر، کاروبار، مال و دولت میں خیر و برکت ہو اور اولاد پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو تو اسے چاہیے کہ نماز فجر کے بعد روزانہ یہ درود گیارہ مرتبہ پڑھے۔ فرضہ سے نجات پائے گا۔

اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَ

اے اللہ! اپنی صلوة رحمت اور

بَرَكَاتِكَ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَ

برکت بھیج سید المرسلین اور

إِمَامِ الْمُتَّقِينَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّينَ

امام المتقين اور خاتم النبیین پر

عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ إِمَامِ الْخَيْرِ وَقَائِدِ

جو تیرے بندے اور رسول خیر کے امام اور

الْخَيْرِ وَرَسُولِ الرَّحْمَةِ ط اللَّهُمَّ

رسول رحمت ہیں اے ہمارے

ابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي

اللہ ان کو مقام محمود عطا فرما جس پر رشک

يَغِيظُهُ بِهِ الْأَوْلُونَ وَالْآخِرُونَ ط

کرتے ہیں پہلے والے اور پچھلے سب

## دَرُودِ ثَمَرَاتٍ

دُرُودِ ثَمَرَاتٍ پڑھنے والے شخص کو اللہ پاک دنیاوی ثمرات سے  
 نوازے گا۔ رزق میں اضافہ ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ  
 وسلم کی زیارت سے مشرف ہوگا۔ اس لیے اس دُرُودِ ثَمَرَاتٍ سے  
 پڑھا کرو۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا

اے ہمارے اللہ درود بھیج ہمارے آقا و مولا

مُحَمَّدٍ عَدَدَ أَوْسَاقِ الزَّيْتُونِ

محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنے زیتون کے

وَجَبِيْعِ الثَّمَارِطِ

تپے ہیں اور جتنے پھل ہیں

دُرُودِ النِّعَامِ

اس درود پاک کے پڑھنے سے بہت سے انعام و اکرام ملتے ہیں۔  
وہ شخص ہمیشہ اللہ کی رحمت سے مال و دولت سے بھرا ہوگا۔ اولاد  
نیک ہوگی۔ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ ہر حاجت میں ابراہار پڑھے  
وہ عاقبول منظور ہوگی۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا

اے اللہ! رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ عَدَدَ النِّعَامِ اَللّٰهُ وَ

اتنا جتنا کہ تیرا انعام اور بے شمار فضل و کرم

# أَفْضَالُهُ ط

فصل و کرم ہے

## دُرُودِ تَرِيقِ امْرَأَتٍ

جو شخص یہ دُرُودِ شَرِيفِ كَثْرَت سے پڑھے گا اس کے قلب و رُوح میں تازگی پیدا ہو جائے گی۔ اسے دنیا میں غیر فانی مقام حاصل ہوگا۔ قبر ہمیشہ روشن رہے گی۔ یہ دُرُودِ السَّيِّئَاتِ ہے کہ جسے پڑھنے سے آخرت سنور جاتی ہے۔ ہر نماز کے بعد یہ دُرُودِ شَرِيفِ اِیْک مرتبہ ضرور پڑھنا چاہیے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى رُوحِ

لے اللہ ارحاح میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رُوح

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي الْأَمْوَاجِ وَصَلِّ

مبارک پر دُرُودِ سَلَامَتِي اور بَرَكَتِ بِيحِج اور قلوب میں سے

وَسَلِّمْ عَلَى قَلْبِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر دُرُودِ سَلَامِ بِيحِج اور جسموں میں

الْقُلُوبِ وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى جَسَدِ

سے سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر



مُحَمَّدٍ فِي الرَّجْسَادِ وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ

درود و سلام بھیج اور قبروں میں سے

قَبْرِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي الْقُبُورِ ط

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر درود بھیج

دُرُودِ اعْزَازِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْاَرْمِيِّ

اے اللہ محمد امی بنی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی

وَعَلَىٰ آلِهِ وَاصْحَابِهِ وَسَلَّمَ

آل پر اور آپ کے صحابہ پر درود و سلام بھیج

عَدَدَ مَا عِلِمْتُ وَزِنَةَ مَا عِلِمْتُ

اتنی تعداد میں کہ جس کا شمار تیرے

وَمِثْلَ مَا عِلِمْتُ ط

اندازے اور علم کے مطابق ہو۔

## دُرُودِ سید محمد مدنی

یہ دُرُودِ اسرار و رُزوکا بیش بہا خزانہ ہے اور بے شمار ظاہری و باطنی اسرار ہیں کسی مقصد کے لیے دل میں نیت کر کے روزانہ گیارہ مرتبہ پڑھیں انشاء اللہ پورا ہوگا۔ صوفیاء کرام اور اولیاء کرام کے مریدین کو اپنے مرشد کی اجازت سے یہ دُرُود ضرور پڑھنا چاہیے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا

یا اللہ دُرُود بھیج اور برکت ہمارے سرور

وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ شَجَرَةِ الْأَصْلِ التُّورَانِيَّةِ

آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اصل تورانی شجر ہیں

وَأَمْرَةَ الْقَبْضَةِ الرَّحْمَانِيَّةِ وَأَفْضَلِ

اور رحمانی ناپور کی چمک ہیں اور انسانی تخلیق میں

الْخَلِيقَةِ الْأَسْمَاءِ الْأَشْرَفِ الصُّورَةِ

سب سے افضل ہیں اور جسمانی صورت میں سب سے افضل ہیں اور

الْجِسْمَانِيَّةِ وَمَعْدِنِ الْأَسْرَارِ

اللہ کے اسرار کا خزانہ ہیں

الرَّبَّانِيَّةِ وَخَزَائِنِ الْعُلُومِ الْأَصْطَفَائِيَّةِ

اور برگزیدہ علوم کے خزانے ہیں اصلی طور

صَاحِبِ الْقَبْضَةِ الْأَصْلِيَّةِ وَالْبَهْجَةِ

والے ہیں اور روشن طلعت اور

السَّنِيَّةِ وَالرُّتْبَةِ الْعَلِيَّةِ مِنْ أَدْرَجَاتِ

بلند مرتبہ پر ہیں جن کے جھنڈے کے

النَّبِيِّونَ تَحْتَ لِوَائِهِ فَهَرَمِنُهُ وَ

سچے تمام انبیائے کرام عظیم السلام ہوں گے اور

إِلَيْهِ وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ وَعَلَى

سب نبی آپ سے خیریں پاب ہیں اور درود و سلام اور برکت

إِلَيْهِ وَصَحْبِهِ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ وَرَزَقْتَ

ہو آپ کی آل پیر اور آپ کے صحابہ کرام پر اس تعداد کے مطابق جو تو

وَأُمَّتٍ وَأَحْيَيْتَ إِلَى يَوْمِ تَبْعَتُ مَنْ

نے مخلوق پیدا کی اور رزق دیا اور موت دی زندگی بخشی اس دن کہ

أَفْنَيْتَ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا وَ

زندہ کرے گا جس کو مردہ کیا اور خوب سلام بھیجے اور

# الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

حمد و ثناں اللہ ہی کے لیے ہے

## دُرُودِ سَیِّدِہ

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مجھ پر دُرُودِ شَرِیف پڑھا کرو تو میرے لیے ویسے ہی مانگا کرو۔ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ کیا ہے تو آپ نے فرمایا، جنت کا اعلیٰ درجہ یعنی مقام محمود ہے۔ جو شخص ایک دفعہ اس دُرُودِ شَرِیف کو پڑھے گا۔ عزت پائے گا۔ کسی حاکم یا افسر کے پاس جائے۔ تو اسے چاہیے کہ ایک دفعہ یہ دُرُودِ شَرِیف پڑھ کر جائے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا

لے الہی دُرُود بھیج ہمارے سردار محمدؐ پر بشار اس کے کہ احاطہ

أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ وَأَحْصَاهُ كِتَابُكَ

کیا ہے اس کا تیرے علم نے اور شمار کیا ہے اس کو تیری کتاب نے

صَلْوَةٌ تَكُونُ لَكَ رِضَىٰ وَلِحَقَّةً أَدَاءً

ایسا دُرُود جو تیری رضا کا باعث ہوا اور آپ کے حق کو ادا کرے

وَأَعْطَاهِ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالذَّرَجَةَ

اور عطا فرما آپ کا وسیلہ اور بزرگی اور درجہ

الرَّفِيعَةَ وَأَبْعَثَهُ اللَّهُمَّ الْبَقَامَ الْمَحْمُودَ

بلند اور فائز فرما آپ کو اے اللہ مقام محمود پر جس

الَّذِي وَعَدْتَنِي وَأَجْرَهُ عَنَّا مَا هُوَ أَهْلُهُ

کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے اور جزا دے آپ کو ہماری

وَعَلَىٰ جَمِيعِ إِخْوَانِهِ مِنَ السَّيِّئِينَ

طرف سے جس جزا کے آپ لائق ہیں اور آپ کے تمام مہمیانوں پر

وَالصَّادِقِينَ وَالشَّهَدَاءَ وَالصَّالِحِينَ

انبیاء سے اور صدیقین سے اور شہیدوں سے اور صالحین سے

## دُرُودُ لَيْلَتِ

غیبی انداز کے لیے اور کاروبار کے لیے اور خیر و برکت کیلئے یہ درود اکثر پڑھا جاتا ہے۔ حضور کی شفاعت نصیب ہوگی اور حنت میں حوض کوثر کا پانی پیئے گا۔ جو سب سے بڑا اعزاز ہوگا۔ صبح کی نماز کے بعد اگیارہ دفعہ یہ درود روزانہ پڑھیں۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ خَتَمْتَ بِهِ

لے اللہ درود بھیج اس ذات پر جس کے ساتھ تو نے

الرِّسَالَةَ وَأَيْدِيَهُ بِالْصُّرَى وَالْكَوْثَرِ

رسالت کو ختم کیا اور تائید فرمائی اس کی اپنی مدد

وَالشَّفَاعَةَ

سے اور کوثر اور شفاعت سے

## دُرُودِ شَفَاعَتِ

یہ درود پاک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے لیے بہت مفید ہے۔ روزانہ گیارہ مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھنے سے قیامت کے روز حضور کی شفاعت نصیب ہوگی۔ شب براءت کے روز اس درود شریف کو اکسیر بار پڑھے رزق میں اضافہ ہوگا۔ سو لاکھ مرتبہ پڑھنے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی سعادت حاصل ہوگی۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى حَبِيبِكَ

لے اللہ درود بھیج اور برکت بھیج اپنے حبیب

شَفِيعِ الْمَذْنِبِينَ وَعَلَىٰ إِلَهِهِ وَ

شفیع المذنبین پر اور آپ کی آل پر اور

أَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

آپ کے تمام صحابہ پر

دُرُودِ ابْنِ كَثِيرٍ

خالد ابن کثیر ہر جمعرات کی رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دس ہزار مرتبہ بڑے خلوص دل کے ساتھ یہ درود پڑھتے تو اس کے بدے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی بخشش و مغفرت کی خبر اہل دنیا کو دے دی۔ اس درود پاک کو دس ہزار مرتبہ پڑھے انشاء اللہ خاتمہ بالایمان ہوگا اور اللہ کا خاص فضل و کرم ہوگا۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ درود بھیج ہمارے آقا محمد پر جو

النَّبِيِّ الْأَمِيِّ الطَّاهِرِ الْبَطْهَرِ وَ

نبی امی ہیں جو پاک اور پاک کئے گئے ہیں اور

عَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ ط

ان کی آل پر اور ان صحابہؓ پر درود برکت اور سلام بھیج

## درود مشاہدہ

اس درود پاک کو روزانہ ۱۱۱ مرتبہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جو اسے چالیس دن تک روزانہ ۲۵ بار پڑھے گا اس کی ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔

صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَىٰ حَبِيبِهِ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

اے اللہ درود بھیج اپنے حبیب رحمت العالمین پر

وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ ط

اور آپ کی آل پر اور آپ کے تمام صحابہؓ پر

## درود برکات کثیرہ

یہ درود برکات کثیرہ بہت سی فضیلت رکھتا ہے صدق دل سے ایک سو مرتبہ پڑھنے سے قیامت کے روز صحابہؓ اور شہداء کے گروہ



میں شامل ہوگا۔ اللہ پاک اس درود شریف کے طفیل پڑھنے والے کے تمام گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں۔ قبر میں یہ درود منکیر نکیر کے سوال و جواب کے وقت بہت کام آئے گا۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى رَسُولِكَ

اے اللہ درود و سلام اور برکت بھیج اپنے چنے ہوئے

الْبُصْطَفَى وَنَبِيِّكَ الْمُرْتَضَى وَعَلَى

رسول اور اپنے پسندیدہ نبی پر اور آپ کی آل پر

إِلَيْهِ وَأَصْحَابِهِ بِعَدَدِ كُلِّ ذَرَّةٍ

اور آپ کے صحابہ پر ہر ایک ذرے

مِائَةِ أَلْفٍ مَرَّةً

کے عوض دس کروڑ بار

دُرُودٌ مُتَقَرَّبٌ

جو شخص درود متقرب پڑھے گا اسے آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ضرور نصیب ہوگی یہ درود روزانہ نماز فجر کے بعد اہم مرتبہ پڑھے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَنْزِلْهُ الْبَقْعَدَ

اے اللہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج اور قیامت کے دن

الْبَقْرَبَّ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ط

انہیں بلند مقام پر بیٹھا جو تیرے نزدیک مقرب ہو۔

## درود ثواب

جو شخص یہ درود شریف پڑھے گا اس کا ثواب لا محدود پائے گا۔ نماز جمعہ کے بعد ۱۰۰ مرتبہ پڑھنے سے اولاد فرما کر رہے گی۔ حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو یہ بات پسند ہے وہ ہمارے گھرانے پر درود بھیجے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَ

اے اللہ ہمارے امی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور

أَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَذُرِّيَّتِهِ

ان کی ازواج مطہرات یعنی مؤمنین کی ماؤں پر اور

وَأَهْلِ بَيْتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ

ان کے عزیزوں پر اور اہل بیت پر درود بھیج جیسا کہ تو نے درود بھیجا ابراہیم

وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَبِيدٌ مَّجِيدٌ

اور ان کی آل پر بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگ ہے

## دُرُودِ حَضُورِي

ایک مرتبہ شیخ عبداللہ بن نعمان نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو عرض کیا یا رسول اللہ میں کونسا درود پڑھوں جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ درود پڑھا کرو۔ مقامِ حضورِی حاصل ہوگی۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا درود بھیج کہ جس سے ان کا

مَلَائِةٌ قَلْبُهُ مِنْ جَلَالِكَ وَعَيْنُهُ

دل تیرے جلال اور ان کی آنکھیں تیرے جلال میں تر رہیں پھر

مِنْ جَمَالِكَ فَأَصْبَحَ فَرِحًا مَسْرُورًا

سور تائید اور فتح سے صبح کرے اور آپ کی آل پر اور

مُؤَيَّدًا مَنصُورًا وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ

آپ کے صحابہ پر سلامتی و تسلیم

# وَسَلَامٌ تَسْلِيْمًا

ناول فرما

## دُرُودِ حُصُولِ عِزَّتِ

جو شخص روزانہ یہ درود شریف صبح اور عشاء کی نماز کے بعد پڑھتا ہے اللہ پاک اس کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے اگر کسی کے خلاف مقدمہ ہو تو پھر تاریخ پر جاتے ہوئے اس درود کو پڑھ کر جائے۔ حج اس کے حق میں فیصدہ کرے گا۔ دورانِ ملازمت یہ درود پاک پڑھ کر دفتر جائے۔ افسرانِ بالا اس سے خوش رہیں گے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا

اے اللہ درود و سلام بھیج اور بکیتیں نازل فرما ہمارے سرور

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الرَّفِيعِ

محمد پر اور ہمارے آقا محمد کی آل پر جن کا مقام بہت

مَقَامُهُ الْوَاجِبُ تَعْظِيمُهُ وَإِحْتِرَامُهُ

بلند ہے جن کی تعظیم اور احترام فرض ہے

صَلَاةً لَا تَنْقُطُ أَبَدًا وَلَا تَقْتُلُ

ایسا درود جو کبھی منقطع نہ ہو اور کبھی فنا نہ ہو

سَرْمَدًا وَلَا تَنْحَصِرُ عَدَدًا ط

اور جسے کوئی شمار نہ کر سکے۔

دُرُودِ دُعَا وَدَوَا

اس کے پڑھنے سے ہر مرض کو شفا ہوتی ہے۔ علامہ ابن المشتر کا کہنا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ پاک کی ایسی حمد کر دے جو سب سے افضل ہو جو اولین اور آخرین اور ملائکہ مقربین آسمان والوں اور زمین والوں سے افضل ہو تو اسے یہ درود شرف پڑھنا چاہیے۔

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا أَنْتَ أَهْلُهُ فَصَلِّ

اے اللہ تیرے ہی لیے تعریف ہے جو تیری شان کے مناسب ہے

عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا أَنْتَ أَهْلُهُ وَأَفْعَلُ بِنَا

محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج جو تیری شان کے مناسب ہے اور میرے ساتھ

مَا أَنْتَ أَهْلُهُ فَإِنَّكَ أَنْتَ أَهْلُهُ

بھی وہ معاملہ کر جو تیری شان کے شایان ہو بے شک تو ہی اس کا مستحق ہے کہ تجھ سے

# التَّقْوَىٰ وَأَهْلُ الْبَغْفِرَةِ ط

سے ڈرا جائے تو مغفرت کرنے والا ہے۔

## دُرُودِ شِشِيَّةِ

یہ دُرُودِ پاکِ عشقِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا کرنے کے لیے نہایت مجرب نسخہ ہے۔ دنیا و آخرت کی بھلائی کے لیے بہترین حل ہے۔

## اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا

اے اللہ دُرُودِ وسلام بھیج ہمارے سردار اور ہمارے آقا و مولیٰ

## مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔

## كَبَائِبٍ وَتَرْضَىٰ بِأَنْ تَصَلِّيَ عَلَيْهِ ط

جیسے تو نے انہیں محبوب کیا اور راضی ہوا جیسا کہ ان پر دُرُودِ بھیجنے کا حکم ہے

## دُرُودِ حَلَبِيَّةِ

دُرُودِ حَلَبِيَّةِ شمارہ نمبر ۳۱۲۵ مرتبہ پڑھنے سے دلی مراد پوری ہوگی۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى أَفْضَلِ حَبِيبِكَ

اے اللہ اپنے افضل حبیب عظیم

النَّبِيِّ الْعَظِيمِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ

نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل

وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ

اور آپ کے صحابہ پر درود اور سلام بھیج

## درود الفاتح

شیخ المشائخ فرماتے ہیں کہ صدق دل سے اس درود پاک کا زندگی میں ایک مرتبہ بھی پڑھنا آخرت میں دوزخ کی آگ سے نجات دلا سکتا ہے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس درود شریف کو جو شخص ۴۰ دن پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے جتنے گناہ ہیں سب بخش دے گا۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا

اے اللہ درود اور سلام اور برکت بھیج ہمارے سردار

مَحْمَدًا لَفَاتِحًا لِمَا أُغْلِقَ وَالْخَاتِمَ

محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہر بند چیز کو کھولنے والے ہیں

لِمَا سَبَقَ وَاللَّامِ صِرَ الْحَقِّ بِالْحَقِّ

اور آپ سابقہ کی انتہا ہیں اور آپ حق کی حق کے ساتھ مدد

وَالْهَادِيَ إِلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ

کرنے والے ہیں اور آپ صراطِ مستقیم کی ہدایت کرنے

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ

والے ہیں اے اللہ ان پر اور ان کی آل پر اور ان کے صحابہ پر

حَقَّ قَدْرِهِ وَمِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ

عظیم قدر و منزلت کے مطابق درود بھیج

## دُرُودِ اعْتِمَادِ

جب مسیٰ نبوی میں داخل ہوں تو ایک مرتبہ اس درود شریف کو پڑھیں

ریاض الجنۃ میں بیٹھ کر روزانہ گیارہ سو مرتبہ پڑھیں انشاء اللہ حضور صلی

اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوں گے۔ روزانہ ۱۱ بار پڑھنے

سے ناحق قید میں ڈالا ہوا قیدی رہا ہو جائے گا۔



اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا

اے اللہ درود اور سلام بھیج اور برکتیں نازل فرما ہمارے

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَفْضَلِ

آقا محمدؐ پر اور ہمارے آقا محمدؐ کی اولاد پر جو ان

مَدَدُوحٍ بِقَوْلِكَ وَأَشْرَفِ دَاعِ

سب سے افضل ہیں جن کی تعریف تو نے اپنے کلام سے کی ہے اور

لِلْإِعْتَصَامِ بِحَبْلِكَ وَخَاتِمِ أَنْبِيَائِكَ

ان سب سے افضل ہیں جنہوں نے تیری رسی کو مضبوط پکڑنے کی دعوت دی ہے

وَرُسُلِكَ صَلَوةً تُبَلِّغُنَا فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ

اور تیرے انبیاء و رسل کے خاتم ہیں الیاد درود کہ پہنچا دے ہمیں دونوں جہانوں میں

عَبِيَّةٍ فَضْلِكَ وَكَرَامَةِ رِضْوَانِكَ

میرے علم فضل تک اور تیری خوشنودی کی عزت تک

وَوَصَلِكَ

اور تیرے وصال تک

## دُرُودُ الزَّائِدِينَ

یہ دُرُود شریف دنیا اور آخرت سنوارنے کے لیے بہترین نسخہ ہے۔ جو کہ  
 جو کہ دُرُود شریف کا کثرت سے ذکر ہوگا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خصوصی  
 توجہ ہوتی جائے گی۔ اور بے پناہ عزت اور برکت میں اضافہ اور زبرد تقویٰ میں  
 سرور آئے گا۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا

اے اللہ دُرُود اور سلام بھیج اور برکتیں نازل فرما ہمارے آقا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَكْرَمِ

محمد پر اور ہمارے آقا محمد کی آل پر جو تیرے بندوں

الْكَرَمَاءِ مِنْ عِبَادِكَ وَأَشْرَفِ الْبَشَرِ

میں بزرگ ترین لوگوں سے بزرگ تر ہے اور بیکارے والوں میں سے اشرف

لِطُرُقِ رَشَادِكَ وَسِرَاجِ أَقْطَارِكَ وَ

ہے جو تیری ہدایت کے راستوں کی طرف بلاتے ہیں اور تیرے

بِلَادِكَ صَلَوَةٌ لَا تَفْنَى وَلَا تَبِيدُ

ملکوں اور شہروں کا آفتاب ہے ایسا دُرُود جو نہ فنا ہو اور نہ ختم ہو

# تَبْلُغُنَا بِهَا كَرَامَةَ الْبَزِيدِ ط

پہنچا تو ہمیں اس کی برکتوں سے مزید عزتوں تک

## دُرُودُ فَوَائِدِ كَثِيرَةٍ

اس درود شریف کو رات سوتے وقت ادا فرمے پڑھیں اتباع سنت اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پابند ہو جاؤ گے۔ اور قیامت کے روز حضور کی شفاعت نصیب ہوگی۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ درود بھیج ہمارے آقا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر

وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ عَدَدَ

اور آپ کی آل پر اور آپ کی ازواج پر اور آپ کی اولاد پر بشمار

الْفَاسِ أُمَّتِهِ اللَّهُمَّ بِبِرْكَةِ الصَّلَاةِ

آپ کی امت پر اے اللہ آپ پر درود کی برکت سے ہم کو

عَلَيْهِ اجْعَلْنَا بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ مِنْ

آپ پر درود پہنچنے میں کامیاب لوگوں میں سے

الْفَائِزِينَ وَعَلَى حَوْضِهِ مِنْ

فرما اور آپ کے حوض پر آنے

الْوَارِدِينَ الشَّارِبِينَ ۝ وَبِسُنَّتِهِ وَ

والوں اور پینے والوں سے فرما اور آپ کی سنت پر

طَاعَتِهِ مِنَ الْعَامِلِينَ ۝ وَلَا تَحُلْ

اور اطاعت پر عمل کرنے والوں سے فرما اور ہمارے درمیان

بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا رَبِّ

اور حضور کے درمیان قیامت کے دن کسی چیز کو حال نہ کر یا رب

الْعَالَمِينَ ۝ وَاعْفِرْ لَنَا وَلِوَالِدِينَا

العالمین اور بخش دے ہمیں اور ہمارے والدین کو

وَلِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

اور تمام مسلمانوں کو اور سب تعریف اللہ کے لیے

رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے

# دَرُودُ الصَّادِقِينَ

یہ درود انوار و اسرار اور معرفت کا بیش بہا خزانہ ہے۔ دنیا اور آخرت کی  
مہمائی کے لیے روزانہ صبح شام پڑھیں۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ درود بھیج ہمارے آقا و مولا محمدؐ پر

نَبِيِّ الْحُكْمِ وَالْحِكْمَةِ السَّرَاجِ الْوَهَّاجِ

جو حکم اور حکمت کے نبی ہیں جو روشن چراغ

الْبَخْصُوصِ بِالْخَلْقِ الْعَظِيمِ وَخَتَمِ

ہیں اور مخصوص کئے ہیں خلق عظیم کے ساتھ

الرُّسُلِ ذِي الْبِعْرَاجِ وَعَلَى آلِهِ وَ

نبیوں کے خاتم ہیں معراج والے ہیں اور آپؐ کی آل پر اور

أَصْحَابِهِ وَاتِّبَاعِهِ السَّالِكِينَ عَلَى

اصحاب پر اور آپؐ کے پیروؤں پر جو چلنے والے ہیں آپ

مِنْهَاجِهِ الْقَوِيْمِ فَأَعْظِمِ اللَّهُمَّ

کے سیدھے راستے پر اور محترم کرے اے اللہ

بِهِ مِنْهَا جُجُومُ الْإِسْلَامِ وَمَصَابِيحُ

آپ کی برکت سے راستہ اسلام کے ستاروں کا اور اندھیروں

الظُّلَامِ الْبَهْتَدَى بِهَمْرِ فِي ظُلْمَةِ

کے چراغ کا جن سے ہدایت حاصل کی جاتی ہے شک کی اندھیری تار

الشُّكِّ الدَّائِمِ صَلَوَةٌ دَائِمَةٌ مَسِيرَةٌ

کی تاریکی میں ایسا درود جو ہمیشہ رہنے والا ہے درپے ہو جت تک متکاظم ہیں

مَا تَلَا طَهَّتْ فِي الْبَحْرِ الْأَمْوَاجُ وَ

سمندروں میں لہریں اور

طَافَ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ مِنْ كُلِّ

طواف کرتے رہیں کعبہ شریف کا ہر دور دراز گھٹائی

فِي عَيْقِ الْحَجَّاجِ وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ

سے آنے والے حاجی اور افضل ترین درود

وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِهِ

اور سلام ہوں حضرت محمد پر جو اللہ کے رسول کریم ہیں

الْكَرِيمِ وَصَفْوَتِهِ مِنَ الْعِبَادِ وَشَفِيعِ

اور اس کے بندوں سے چنے ہوئے ہیں اور نزاری مخلوق

الْخَلَائِقِ فِي الْبَيْعَادِ صَاحِبِ الْبَقَامِ

کے شفیق ہیں قیامت کے دن اور صاحب مقام

الْمَحْمُودِ وَالْحَوْضِ الْمَيُورِ وَالنَّاهِضِ

محمود ہیں اور اُس حوض کے مالک ہیں جس پر سب لوگ

بِأَعْبَاءِ الرِّسَالَةِ وَالتَّبْلِيغِ الْأَعْمَرِ

آئیں گے جو اٹھانے والے ہیں رسالت اور تبلیغ عام کے بارہائے

الْمَخْصُوصِ بِشَرَفِ السَّعَايَةِ فِي

گراں کو اور مخصوص ہیں اس کوشش کے شرف سے جس میں لوگوں

الصَّلَاحِ الْأَعْظَمِ

کی بڑی بھلائی ہے

دَرُودِ مَكِينٍ

اس درود شریف کے پڑھنے سے میاں بیوی کے درمیان محبت بڑھتی

ہے۔ گھر میں سکون اور خوشحالی رہتی ہے۔ ہر طرف مخالفت ختم

ہو جاتی ہے۔

یہ درود شریف بلاناغہ پڑھیے۔

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اے اللہ درود بھیج ہماری آقا محمد پر اور آپ کی

آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَوْلَادِهِ وَأَزْوَاجِهِ

آل اور اصحاب اور اولاد اور ازواج

وَذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَأَصْهَارِهِ وَ

اور آپ کی ذریات اور اہل بیت اور آپ کے سسرال اور

أَنْصَارِهِ وَأَشْيَاعِهِ وَمُحِبِّيهِ وَأُمَّتِهِ

انصار پر اور آپ کے فرمانبرداروں اور محبت کرنے والوں پر

وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ أَجْمَعِينَ يَا أَرْحَمَ

آپ کی ساری اُمت پر اور ہم پر بھی ان تمام کے ساتھ یا

### الرَّاحِمِينَ

ارحمن الراحمين

### دُرُودٌ دَافِعَةٌ لِشَرِّ عَدُوِّ

جو کسی دشمن کی دشمنی سے بہت تنگ آگیا ہو یا طرح طرح

کی اذیتوں اور پریشانیوں میں مبتلا ہو اسے چاہیے کہ وہ روزانہ یہ درود شریف پڑھے۔



يَا مُدِّنُ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ صَلَّى عَلَيَّ

اے ذلیل کرنے والے ہر زبردست معاند کے درود بھیج

سَيِّدَانَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَاللَّهُ وَصَحْبِهِ وَ

ہمارے آقا و مولا محمدؐ پر اور ان کی آل و اصحاب اور

بَارِكُ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اقْهَرِ بِهَا عَلَيَّ

برکت و سلام اور میرے دشمنوں پر اس درود سے قہر فرما

أَعْدَائِنَا وَالزِّمْمَهُمْ وَعَجِّلْ إِلَيْهِمْ

اور ان کی طرف جلدی پہنچا دے وہ چیز جو وہ میرے

مَا قَصَدُوا فِي أَمْوَالِهِمْ وَ

لیے چاہتے ہیں ان کے مال اور عزت

عِزَّتِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ط

اور ان کی جانوں میں اور وہ ان سے لازم کر دے

دُرُودُ نِعْمِ الْبَيْتِ صَدَقَةٍ

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا

کہ مجھ پر یہ درود پڑھا کرو کیونکہ یہ تمہارے لیے صدقہ ہے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ

اے اللہ درود نازل فرما سیدنا محمدؐ پر جو تیرے بندے اور

وَصَلِّ عَلَى الْبُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

رسول ہیں اور درود نازل فرما سارے مومنین اور مومنات

وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ ط

اور مسلمان اور مسلمات

## درود العاشقین

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمُحِبِّبِنَا

اے اللہ درود اور سلام بھیج ہمارے سردار اور ہمارے محبوب

وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ

اور ہمارے والی محمدؐ بن عبد اللہ بن عبد

الْبَطْلِيِّ الْهَاشِمِيِّ الْقُرَشِيِّ الذِّكِيِّ

المطلب ہاشمی قریشی ذکی

الْبَدَنِيِّ الْعَرَبِيِّ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا وَ

بدنی عربی پر اور آپؐ کی آل پر اور

حَبِيبِنَا مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ

ہمارے حبیب محمد بن عبد اللہ بن عبد

الْبَطْلِيِّ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الْحِجَازِيِّ

المطلب امی نبی حجازی

الْحَرَمِيِّ بِقَدْرِ حَسَنِهِ وَجَمَالِهِ

حرمی پر آپ کے حسن و جمال کے مطابق

## دُرُودِ بَشَارَاتٍ

یہ درود پاک سب سے بڑی خصوصیت یہ رکھتا ہے کہ اگر کوئی چیز کم ہو جائے تو رات سوتے وقت گیارہ روز گیارہ سو مرتبہ پڑھے انشاء اللہ کم شدہ چیز مل جائے گی۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ درود بھیج ہمارے آقا اور مولا محمد پر

عَدَدَ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ وَعَدَدَ مَا

بشمار اس کے جو ہو چکا ہو رہا ہے اور جو ہوگا اور بے شماران

أَظْلَمَ عَلَيْهِ الْبَلُّ وَأَضَاءَ عَلَيْهِ النَّهَارُ

پھیروں کے کہ تاریک ہوئی ان پر رات اور روشن ہوا ان پر دن

## دُرُودِ اہل بیت عَلَيْهِمُ السَّلَامُ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو یہ پسند ہو کہ اسے بہت زیادہ ثواب ملے تو اسے چاہیے کہ ہمارے ساتھ اہل بیت پر دُرُود بھیجے اور لوگوں دُرُود بھیجے اس کے صدقے اللہ پاک اس کی اولاد اور اہل خانہ پر رحمت کی بارش کرے گا۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ وَ

اے اللہ دُرُود بھیج ہمارے آقا محمدؐ پر جو نبی ہیں اور آپ

أَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَذُرِّيَّتِهِ

کی ازواج پر جو مومنوں کی مائیں ہیں اور آپ کی اولاد

وَأَهْلِ بَيْتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا

پر اور آپ کی اہلیت پر جس طرح دُرُود بھیجا تو نے ہمارے سردار

إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَيِّدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ

ابراہیم پر بے شک تو حمید و مجید ہے اے اللہ

بَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

برکتیں نازل فرما ہمارے آقا محمدؐ پر اور آل محمدؐ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا

پر جس طرح برکت نازل فرمائی تو نے ہمارے سردار

إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَبِيبٌ مَّجِيدٌ ط

ابراہیمؑ پر بے شک تو حمیدؑ مجیدؑ ہے

سَيِّدِ الْمَسَلِّينَ كَادِرُودِيَاك

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ درود پڑھا اور صحابہ کرام کو پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ بے پناہ فوائد ہیں۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ

اے اللہ اپنے (برگزیدہ) بندے اور رسول نبی

رَسُولِكَ النَّبِيِّ الْأَمِيِّ وَعَلَى آلِ

امیؑ سیدنا محمدؑ کی اولاد پر

مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ

درود نازل فرما اے اللہ سیدنا محمدؑ اور سیدنا محمدؑ کی

عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تَكُونُ لَكَ

اولاد پر ایسا درود نازل فرما جو تیری

رَضِيَ وَوَلَهُ جَزَاءٌ وَلِحَقُّهُ آدَاءٌ وَ

رضا کا ذریعہ ہو اور حضور کے لیے پورا بدلہ اور

أَعْطَاهِ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالْبَقَامَ

آپ کے حق کی ادائیگی ہو اور آپ کو وسیلہ اور فضیلت اور مقام

الْمَحْمُودِ الَّذِي وَعَدْتُهُ وَأَجْرُهُ عَنَّا

محمود وعدہ کیا ہے جس کا تو نے اور

مَا هُوَ أَهْلُهُ وَأَجْرُهُ أَفْضَلُ مَا جَارَيْتَ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف سے ایسی جزا عطا فرما

نَبِيًّا عَنِ قَوْمِهِ وَرَسُولًا عَنِ أُمَّتِهِ

جو آپ کی شان عالی کے لائق ہو اور آپ کو ان سب سے افضل

وَصَلِّ عَلَى جَمِيعِ إِخْوَانِهِ مِنْ

بدلہ عطا فرما جو تو نے کسی نبی کو اس کی قوم کی طرف سے اور کسی

النَّبِيِّينَ وَالصَّالِحِينَ يَا أَرْحَمَ

رسول کو اس کی امت کی طرف سے عطا فرمایا اور حضور کے تمام برادرانِ انبیاء و

الرَّاحِمِينَ ط

صالحین برائے رحم الراحمین و رُود نازل فرما۔

# دُرُودِ سُرُورِ کائناتِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مجھ پر دُرُودِ سُرُورِ بھجو تو لوگوں  
کہو۔ (حصن حصین)

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ

اے اللہ! دُرُودِ بھج حضرت محمدؐ پر جو نبی

الرَّحْمٰنِ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا

آمتی ہیں اور آل حضرت محمدؐ پر جس طرح دُرُودِ

صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيمَ اِنَّكَ

بھیجا تو نے حضرت ابراہیمؑ پر بے شک

حَمِيْدًا مَّجِيْدًا وِبَارِكًا عَلٰی سَيِّدِنَا

تو سب خوبیوں سرا ہا بزرگ ہے اور برکت نازل فرما حضرت

مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الرَّحْمٰنِ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰی

محمدؐ پر جو نبی آمتی ہیں جس طرح برکت نازل فرمائی تو نے

سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

حضرت ابراہیمؑ پر بے شک تو حمید مجید ہے

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا درود

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

اے اللہ درود بھیج سیدنا محمدؐ اور آل سیدنا محمدؐ پر

كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ

جس طرح تو نے درود نازل فرمایا سیدنا ابراہیمؑ اور آل سیدنا

إِبْرَاهِيمَ وَبَارَكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

ابراہیمؑ پر اور برکت نازل فرما سیدنا محمدؐ اور آل سیدنا

مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَ

محمدؐ پر جس طرح تو نے برکت نازل فرمائی حضرت ابراہیمؑ پر

تَرَحَّمْتَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

اور رحمت بھیج سیدنا محمدؐ اور آل سیدنا محمدؐ پر

كَمَا تَرَحَّمْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى

جس طرح تو نے رحمت بھیجی سیدنا ابراہیمؑ پر اور سیدنا



# اِلٰ اِبْرٰهِيْمَ ط

ابراہیم کی اولاد پر

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درود

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ

اے اللہ درود نازل فرما سیدنا محمدؐ اور سیتنا محمدؐ کی آلؑ پر

وَبَارِكْ وَسَلِّمْ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَاٰلِ مُحَمَّدٍ

اور برکت و سلام بھیج سیدنا محمدؐ اور سیتنا محمدؐ کی آلؑ پر

وَارْحَمْ مُحَمَّدًا وَاَوْعَالَ اِلِ مُحَمَّدٍ كَمَا

اور رحمت فرما سیدنا محمدؐ کی اولاد پر جیسا کہ تو نے درود و برکت

صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ وَتَرَحَّمْتَ عَلٰی

اور رحمت نازل فرمائی سیدنا

اِبْرٰهِيْمَ وَعَلٰی اِلِ اِبْرٰهِيْمَ فِي

ابراہیم اور آلؑ سیدنا ابراہیمؑ پر سارے جہانوں

الْعٰلَمِيْنَ اِنَّكَ حَبِيْبٌ مَّجِيْدٌ ط

میں ہے، بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگ ہے

## دُرُودِ رَحْمَتِ وَبَرَكَتِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

لے اللہ درود بھیج سیدنا محمدؐ اور آل سیدنا

مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

محمدؐ پر اور برکت نازل فرما سیدنا محمدؐ اور آل محمدؐ

مُحَمَّدٍ وَأَرْحَمْ مُحَمَّدًا وَآلَ مُحَمَّدٍ كَمَا

پر اور رحمت نازل فرما سیدنا محمدؐ اور آل محمدؐ

صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ وَرَحِمْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ

جیسا کہ تو نے درود برکت و رحمت سیدنا ابراہیمؑ

وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَيِّدٌ مَجِيدٌ

اور آل سیدنا ابراہیمؑ پر نازل فرما بیشک تو ستورہ صفات بزرگ ہے

دُرُودِ نَبِيِّ كَرِيمٍ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

یہ درود شریف فیوض و برکات کے لیے اور آخرت میں انجام بخیر کے لیے اس

درود پاک کا پڑھنا بہت اکیسر ہے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ

اے اللہ اپنے بندے اور رسول سیدنا محمدؐ پر درود نازل

رَسُولِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ

فرما جیسا کہ تو نے حضرت ابراہیمؑ کی اولاد

إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ

پر درود نازل فرمایا اور سیدنا محمدؐ اور

وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى

آل سیدنا محمدؐ پر برکت نازل فرما جس طرح نے حضرت

آلِ إِبْرَاهِيمَ ط

ابراہیمؑ کی اولاد پر برکت نازل فرمائی

بِحُضُورِ سِرِّ وَرُكُونِ كَادِرٍ وَوِدْيَاك

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَهْلِ بَيْتِهِ

اے اللہ درود نازل فرما سیدنا محمدؐ پر اور آپ کے گھر والوں پر

كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ

جیسا کہ تو نے حضرت ابراہیمؑ پر نازل فرمایا بیشک تو تعریف

مَجِيدًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْنَا مَعَهُمُ اللَّهُمَّ

کیا گیا بزرگ ہے اے اللہ ہمارے اوپر ان کے ساتھ درود نازل فرما

بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ

اے اللہ برکت نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کے گھر والوں پر

كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ

جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی حضرت ابراہیم پر بیشک تو ستودہ صفات

مَجِيدًا اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَيْنَا مَعَهُمُ صَلَوَاتُ

بزرگ ہے اے اللہ ہمارے اوپر ان کے ساتھ برکت نازل فرما

اللَّهِ وَصَلَوَاتُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مُحَمَّدٍ

اللہ تعالیٰ کے بکثرت درود اور مومنین کے بکثرت درود نبی

النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ

اُمّی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوں

حَبِيبِ خَدَا صَلِّ اللَّهُ عَلَيْهِ الْيَوْمَ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ درود بھیج ہمارے آقا و مولیٰ محمد پر

وَعَلَىٰ آلِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا

اور آپ کی آل پر جس طرح درود بھیجا تو نے ہمارے سردار

إِبْرَاهِيمَ وَبَارَكْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ

ابراہیمؑ پر اور برکتیں نازل فرما ہمارے آقا و مولا محمدؐ پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ

اور آل سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طرح برکتیں

عَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا إِبْرَاهِيمَ فِي

نازل فرمائی ہیں تو نے آل ابراہیمؑ پر تمام جہانوں

الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَيِّدٌ مُّبِينٌ ط

میں بے شک تو ہی تعریف کیا گیا، بزرگی والا ہے

## دُرُودُ الطَّالِبِينَ

صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ

اور درود بھیجے اللہ تعالیٰ ہمارے آقا محمدؐ پر بے شمار اپنی

خَلْقِهِ وَرِضَاءَ نَفْسِهِ وَزِينَةَ عَرْشِهِ

مخلوق کے اور بمقدار اپنی رضا کے اور بوزن اپنے عرش کے

وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ وَكَمَا هُوَ أَهْلُهُ وَكَلِمَاتِهِ

اور اپنے کلمات کی سیاہی کے برابر اور جس طرح وہ ان کے

ذِكْرُهُ الذَّاكِرُونَ وَغَفَلَ عَن ذِكْرِهِ

شایان شان ہیں اور جب کہ یاد کریں آپ کو یاد کرنے والے اور غافل ہیں

الْغَافِلُونَ وَعَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ وَعِزَّتِهِ

آپ کے ذکر سے غفلت برتنے والے اور آپ کی اہل بیت پر اور آپ کی پاک

الطَّاهِرِينَ وَسَلَامٌ وَسَلَامٌ

اولاد پر اور سلام بھیجے

دُرُودُ نُورِ الْقِيَامَةِ

یہ دُرُودُ اللہ تعالیٰ کی رضا اور قرب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔  
اعمال پاکیزہ ہو جائیں گے اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی محبت دل میں گھر  
کر جائے گی۔ نور معرفت حاصل ہوگی۔ اس دُرُودِ شریف کا ثواب چودہ ہزار  
دُرُودِ شریف کے برابر ہوگا

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِحَرِّ

لے اللہ! دُرُودِ بھیج ہمارے آقا محمد پر جو سمندر ہیں تیرے انوار کے

أَنْوَارِكَ وَمَعْدِنِ اسْرَارِكَ وَلِسَانِ

جو کان ہیں تیرے اسرار کی اور جو زبان ہیں تیری روشن

حُجَّتِكَ وَعُرْوَسِ مَمْلَكَتِكَ وَإِمَامِ

دلیل کی اور جو دُولا ہیں تیری مملکت کے اور جو امام ہیں

حَضْرَتِكَ وَطَرَازِ مُلْكِكَ وَخَزَائِنِ

تیری بارگاہ کے اور جو زینت ہیں تیرے ملک کے اور خزانے ہیں تیری رحمت

رَحْمَتِكَ وَطَرِيقِ شَرِيعَتِكَ الْمُبْتَدِئِ

کے اور جو راستہ ہیں تیری شریعت کا اور جو لذت پانے والے ہیں

بِنَوْحِيْدِكَ اِنْسَانِ عَيْنِ الْوَجُوْدِ وَ

تیری توحید سے جو پتلی ہیں وجود کی آنکھ کی اور

السَّبَبِ فِي كُلِّ مَوْجُوْدٍ عَيْنِ اَعْيَانِ

جو سبب ہیں ہر موجود کے وجود کے اور جو آنکھ ہیں تیری مخلوق

خَلْقِكَ الْمُنْقَدِّمِ مِنْ نُوْرِ ضِيَاءِكَ

کے برگزیدوں کے اور پہلے ظاہر ہونے والے ہیں تیری ذات کی تجلی کے نور سے

صَلْوَةٌ تَدُوْمُ بِدَوَامِكَ وَتَبْقَى

ایسا درود جو ہمیشہ رہے تیرے دوام کے ساتھ

بِقَائِكَ لَا مُنْتَهَى لِهَادُونَ عَلَيْكَ

اور نہ انتہا ہو اس کی سوا تیرے علم کے

صَلَاةٌ تَرْضِيكَ وَتَرْضِيهِ وَتَرْضَى

ایسا درود کہ خوش کر دے تجھے اور خوش کر دے آپ کو اور خوش

بِهَاعِنَّا يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

ہو جائے تو اس کے سبب ہم سے یارب العالمین

دُرُودِنِي

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا

اے اللہ درود و سلام بھیج اور برکتیں نازل فرما ہمارے آقا

وَمَحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَأَزْوَاجِهِ الْأَمْهَاتِ

محمد پر جو نبی اُمّی ہیں اور آپ کی ازواج پر جو مسلمانوں کی

الْمُؤْمِنِينَ وَذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ صَلَاةً

میں ہیں اور ان کی اولاد اور ان کے اہلیت پر ایسا درود

وَسَلَامًا لَا يَحْصَى عَدَدُهُمَا وَلَا يَقْطَعُ

اور سلام کرنے بشمار کیا جا سکے ان کا عدد اور نہ ختم ہو



# مَدَدُهُبًا ط

اُن کی زیادتی

## دُرُودِ حِفَاظَت

فتنے اور لڑائی جھگڑے سے محفوظ رہنے کے لیے یہ دُرُود اکثر پڑھا جاتا ہے۔ حِفَاظَت الہی ہر وقت شامل حال رہتی ہے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اے اللہ دُرُود بھیج حضرت محمدؐ پر اور ہمارے آقا محمدؐ کی

أٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا أَحَاطَ بِهِ

اولاد پر بشمار اس کے جس کو تیرے علم نے احاطہ کیا ہے

عِلْمِكَ وَجَرَى بِهِ قَلْبِكَ وَسَبَقَتْ

اور بشمار اس کے کہ تیرے قلم نے لکھا ہے اور بشمار

بِهِ مَشِيئَتِكَ وَصَلَّتْ عَلَيْكَ مَلَائِكَتُكَ

اس کے کہ پہلے ہو چکے ہیں ساتھ اس کے ارادہ تیرا اور بشمار اس کے

صَلَاةِ دَائِمَةً بِدَاوَامِكَ بِأَقْبَةِ بِفَضْلِكَ

کہ دُرُود بھیجا ہے آنحضرتؐ پر تیرے فرشتوں نے ایسا دُرُود جو ہمیشہ رہنے والا ہے

وَإِحْسَانِكَ إِلَىٰ أَبَدِ الْأَبَدِ الْأَبَدِ الْآبِدَةِ

تیرے دوام کے ساتھ باقی رہنے والا ہے تیرے فضل و احسان سے ابد الابد تک کہ جس کی ابدیت

لَا أَبَدِيَّتَهُ وَلَا فَنَاءَ لِدَيُّومِيَّتِهِ ط

کے کوئی حد نہیں اور جس کے دوام کو فنا نہیں

دُرُودِ بَلَدِي دَرَجَاتِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ درود و سلام بھیج اور برکتیں نازل فرما ہمارے آقا محمد

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَكْرَمِ خَلْقِكَ وَسِرِّجِ

اور ہمارے آقا محمد کی آل پر جو تیری سب مخلوق سے معزز ہیں اور تیرے

أَفْئِكَ وَأَفْضَلِ قَائِمِ بِحَقِّكَ الْبِعُوثِ

افئق کے آفتاب ہیں اور تیرے حق کے قائم کرنے والوں سے افضل ہیں بھیجے گئے

بِنَيْبِيْرِكَ وَرِفْقِكَ صَلَوَاتُكَ تَوَالِي تَكَرُّرِهَا

ہیں آسانی اور نرمی کے ساتھ ایسا درود جو بے دریغ دہرایا جاتا رہے اور

وَتَلَوُّهُمُ عَلَىٰ الْأَكْوَانِ أَنْوَارُهَا ط

چمکیں سب مخلوق پر اس کے انوار

# دُرُودِ مُکْرَم

یہ دُرُودِ کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ اس کا پہلا فائدہ اسرارِ رموز کا ظاہر ہونا  
 ۲ گھنٹہ میں عزت ہوگی ۳ اس سے اللہ پاک راضی ہوگا۔ ۴ حج  
 بیت اللہ کی زیارت ہوگی۔ ۵ کاموں میں برکت ہوگی۔ اس کے پڑھنے کا  
 طریقہ یہ ہے کہ بعد نمازِ عشاء اور دفعہ روزانہ پڑھے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اے اللہ! دُرُودِ بھیج حضرت محمدؐ پر اور آپ کی

إِلَى بَحْرِ أَنْوَارِكَ وَمَعْدِنِ اسْرَارِكَ

آل پر جو تیرے انوار کا سمندر ہیں اور تیرے اسرار کی کان ہیں

وَلِسَانِ حُجَّتِكَ وَعُرْوِسِ مَمْلُوكَتِكَ

اور جو تیری توجید کی دلیل کی زبان ہیں اور تیری مملکت کے ڈولہا ہیں

وَأِمَامِ حَضْرَتِكَ وَخَاتِمِ أَنْبِيَائِكَ

اور تیری بارگاہِ عزت کے امام ہیں اور تیرے انبیاء کے خاتم ہیں ایسا

صَلَاةٌ تَدْوُرُ بِدَوَامِكَ وَتَبْقَى

دُرُودِ جو ہمیشہ رہے تیرے دوام تک اور باقی رہے

بِقَائِكَ صَلَوةً تُرَضِّيكَ وَتُرَضِّيه

تیری بقائتک ایسا درود جو راضی کر دے تجھ کو اور راضی کر دے حضور کو

وَتُرَضِّى بِهَا عَنَّا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

اور راضی ہو جائے تو اس کی برکت سے ہم سے یا ارحم الراحمین

اللَّهُمَّ رَبَّ الْحِلِّ وَالْحَرَامِ وَرَبَّ

اے اللہ! اے مالکِ حِلِّ و حرام اور مالکِ

الشَّعْرِ الْحَرَامِ وَرَبَّ الْبَيْتِ الْحَرَامِ

شعرِ حرام کے اور مالکِ بیتِ الحرام کے اور مالکِ

وَرَبَّ الرُّكْنِ وَالْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ

رکنِ مقام کے پنچا ہمارے آقا اور مولیٰ

وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

محمدؐ کو ہماری طرف سے سلام

دُرُودِ مَكَاشِفِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا

اے اللہ! درود و سلام بھیج اور برکتیں نازل فرما ہمارے آقا

مُحَمَّدٍ نَبِيِّكَ وَرَسُولِكَ وَسَيِّدِنَا

محمدؐ پر جو تیرے نبی ہیں اور رسول ہیں اور ہمارے سردار

إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِكَ وَصَفِيكَ وَسَيِّدِنَا

ابراہیمؑ پر جو تیرے خلیل ہیں اور برگزیدہ ہیں اور ہمارے سردار

مُوسَىٰ كَلِيمِكَ وَنَجِيكَ وَسَيِّدِنَا

موسیٰؑ پر جو تیرے کلیم اور تیرے ہمراز ہیں اور ہمارے

عِيسَىٰ رُوحِكَ وَكَلِمَتِكَ وَعَلَىٰ جَبِينِكَ

سردار عیسیٰؑ پر جو تیری روح اور تیرا کلمہ ہیں اور اپنے جملہ

مَلَائِكَتِكَ وَرُسُلِكَ وَأَنْبِيَائِكَ وَجِبْرَتِكَ

فرشتوں پر اور اپنے رسولوں پر اور اپنے نبیوں اور اپنی خلق سے

مِنْ خَلْقِكَ وَأَصْفِيَائِكَ وَخَاصَّتِكَ

چنے ہوئے لوگوں پر اپنے برگزیدہ بندوں پر اور اپنے خاصوں پر اور

وَأَوْلِيَائِكَ مِنْ أَهْلِ أَرْضِكَ وَسَمَائِكَ

اپنے دوستوں پر جو تیری زمین میں بستے ہیں یا تیرے آسمان میں رہتے ہیں



# دُرُودِ جَمَالِی

حضرت حن بن علی رضی اللہ عنہم کا ارشاد ہے کہ جو شخص کسی مہم یا پریشانی یا مصیبت میں ہو تو وہ یہ دُرُودِ شَرِیفِ ایک ہزار مرتبہ محبت و شوق سے پڑھے انشاء اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت ٹل جائے گی اور اس کی مراد پوری ہوگی

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

اے اللہ دُرُودِ بھیج ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور

عَلَى آلِهِ بِقَدْرِ حُسْنِهِ وَجَبَّالِهِ ط

آپ کی آل پر آپ کے حسن و جمال کے مطابق

# دُرُودِ اَكْبَرِ

دُرُودِ اَكْبَرِ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام صفات جمیلہ کا ذکر طے سے پیار سے انداز میں کیا گیا ہے یہ دُرُودِ زیادہ طویل ہونے کی نسبت سے اکبر کہلاتا ہے۔ یہ دُرُودِ نمازِ فجر سے پہلے یا بعد میں پڑھے گا۔ اس کی دین و دنیا بدل جائے گی اور حضور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے

بے پناہ محبت ہو جائے گی۔ اور آپ کی زیارت سے مشرف ہوگا۔ دل کی صفائی ہو جائے گی دلی مرادیں پوری ہوں گی۔ آسیب اور دفع بلیات کے لیے سات بار پڑھ کر پانی پر پھونک مار کر پلاویں آسیب دفع ہو جائے گا۔ اس درود شریف کے ہر ایک حرف کے عوض ایک حج اور ایک عمرہ کا ثواب اس کے تمامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اور باری تعالیٰ اس کی طرف تین سو ساٹھ بار نظرِ رحمت فرمائے گا۔ وہ شخص مرنے سے پہلے ہی اپنا گھر حنت میں دیکھ لے گا۔ اور جب مرے گا تو اس کے جنازہ پر اللہ کے فرشتے جنازہ میں شریک ہوں گے۔ اور قیامت تک فرشتے اس کی قبر پر آیا کریں گے۔

طریقِ زکوٰۃ کے لیے بزرگانِ سلف نے یوں فرمایا ہے کہ جمعرات کی رات بعد نمازِ عشاء شروع کرے۔ پہلے دو نفل ادا کرے اور پھر گیارہ دفعہ درود شریف ابراہیمی پڑھے اور یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرے۔ متواتر گیارہ راتیں پڑھے۔ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ آیامِ زکوٰۃ نماز پنجگانہ ادا کرنا پابندی وقت شرطِ اول ہے۔ اس کے بعد نمازِ فجر یا نمازِ عشاء کے بعد ایک ہی دفعہ پڑھ لیا کرے۔

دینی اور دنیوی نعمتوں سے مالا مال ہو جانے کا۔



# دَرُودِ اَكْبَرِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ

دُرُود اور سلام اوپر تیرے اے رسول اللہ کے

الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ يَا نَبِیَّ اللّٰهِ

دُرُود اور سلام اوپر تیرے اے نبی اللہ کے

الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ يَا حَبِیْبَ اللّٰهِ

دُرُود اور سلام اوپر تیرے اے حبیب اللہ کے

الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ يَا خَلِیْلَ اللّٰهِ

دُرُود اور سلام اوپر تیرے اے خلیل اللہ کے

الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ يَا صَفِیَّ اللّٰهِ

دُرُود اور سلام اوپر تیرے اے برگزیدہ اللہ کے

الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ يَا خَيْرَ خَلْقِ اللّٰهِ

دُرُود اور سلام اوپر تیرے اے سب سے بہتر مخلوق اللہ کے



الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَلِكِ اللَّهِ

درود اور سلام اوپر تیرے اے مکی اللہ کے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا قَرِيبِي اللَّهِ

درود اور سلام اوپر تیرے اے قریبی اللہ کے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَدِينِي اللَّهِ

درود اور سلام اوپر تیرے اے مدنی اللہ کے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ اخْتَارَهُ اللَّهُ

درود اور سلام اوپر تیرے اے وہ شخص کہ پسند کیا اس کو اللہ نے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ عَطَاهُ اللَّهُ

درود اور سلام اوپر تیرے اے وہ شخصیت کے عطا دی اس کو اللہ نے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَلِيفَةَ اللَّهِ

درود اور سلام اوپر تیرے اے خلیفہ اللہ کے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَضْرَةَ اللَّهِ

درود اور سلام اوپر تیرے اے حاضر ہونے والے درگاہ اللہ کے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَفْوَةَ اللَّهِ

درود اور سلام اوپر تیرے اے برگزیدہ اللہ کے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حُجَّةَ اللَّهِ

دُرُود اور سلام اوپر تیرے لئے برہان اللہ کے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَحْمَةَ اللَّهِ

دُرُود اور سلام اوپر تیرے رحمت اللہ کے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نُورَ اللَّهِ

دُرُود اور سلام اوپر تیرے اے نور اللہ کے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدَ رَسُولِ اللَّهِ

دُرُود اور سلام اوپر تیرے اے محمد رسول اللہ کے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَاحِبَ النَّجْمِ وَالْمِعْرَاجِ

دُرُود اور سلام اوپر تیرے لئے صاحب تاج اور معراج کے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَاحِبَ الْحَوْضِ وَالْكَوْثَرِ

دُرُود اور سلام اوپر تیرے لئے صاحب حوض کوثر کے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَاحِبَ الشِّفَاعَةِ

دُرُود اور سلام اوپر تیرے لئے صاحب شفاعت کے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَاحِبَ النِّعَمَةِ

دُرُود اور سلام اوپر تیرے لئے صاحب نعمت کے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَاتَمَ النَّبِيِّ وَالرِّسَالَةِ

درود اور سلام اوپر پڑھے اے ختم کرنے والے نبوت اور رسالت کے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ الْمَدِينِ

درود اور سلام اوپر پڑھے اے نبی مدینہ والے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ الْحَرَمِ

درود اور سلام اوپر پڑھے اے نبی حرم والے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ الْعَرَبِ

درود اور سلام اوپر پڑھے اے نبی عرب کے رہنے والے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ الْحِجَازِ

درود اور سلام اوپر پڑھے اے نبی حجاز والے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ الْيَمَامِ

درود اور سلام اوپر پڑھے اے نبی تمامہ والے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ الْهَاشِمِيِّ

درود اور سلام اوپر پڑھے نبی ہاشمی

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ الْقُرَشِيِّ

درود اور سلام اوپر پڑھے اے نبی قریشی

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ الرَّزِيِّ

درود اور سلام اوپر ترے اے نبی پاک

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ الْأَرْمِيِّ

درود اور سلام اوپر ترے اے نبی ارمی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع ساتھ نام اللہ بخشنے والے ہرمان کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں رسولوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْبَشَرِ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں نبیوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُؤْمِنِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں مومنوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُتَّقِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں پرہیزگاروں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الصَّالِحِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں نیکوکاروں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْبَصِيحِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں اصلاح کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الصَّادِقِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں سچوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْبَصِيحِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں تصدیق کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الصَّابِرِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں صبر کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الشَّهِيدِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں گواہوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمَسْمُودِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں حاضر کے سہوڑوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْبُرَّاطِينِ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں جو کٹنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُنْجِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں نجات دہانے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْبُقَدْحِيِّينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمدؐ کے جو سردار ہیں فلاح والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْبُجَبِيِّينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمدؐ کے جو سردار ہیں قبول کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الزَّاهِدِيْنَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمدؐ کے جو سردار ہیں پسمہیز گاروں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ التَّائِبِيْنَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمدؐ کے جو سردار ہیں توبہ کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْخَائِفِيْنَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمدؐ کے جو سردار ہیں ڈرانے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْعَاطِفِيْنَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمدؐ کے جو سردار ہیں نرمی کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْبَاكِئِيْنَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمدؐ کے جو سردار ہیں خوف خدا سے رونے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْقَائِمِيْنَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمدؐ کے جو سردار ہیں قائم کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الرَّائِعِينَ

یا الہی درود بیچ اوپر محمد کے جو سردار ہیں رکوع کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ السَّجِدِينَ

یا الہی درود بیچ اوپر محمد کے جو سردار ہیں سجدہ کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْبَصِلِينَ

یا الہی درود بیچ اوپر محمد کے جو سردار ہیں نمازیوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْقَارِئِينَ

یا الہی درود بیچ اوپر محمد کے جو سردار ہیں قاریوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْقَاعِدِينَ

یا الہی درود بیچ اوپر محمد کے جو سردار ہیں بیٹھنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْأَزْهَدِينَ

یا الہی درود بیچ اوپر محمد کے جو سردار ہیں زاہدوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْبُوقَاتِينَ

یا الہی درود بیچ اوپر محمد کے جو سردار ہیں یقین دلاسنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْبُنَاجِينَ

یا الہی درود بیچ اوپر محمد کے جو سردار ہیں ہمزادوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْقَائِمِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں قیامت کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْحَافِظِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں حافظوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْجَائِعِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں بھوکوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْحَامِدِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں حمد کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْتَدِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں مرشدوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ النَّظَرِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں دیکھنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْبَارِكِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں برکت والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْبُوحِدِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں بے شریکوں کے



اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْقَائِلِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمدؐ کے جو سردار ہیں بولنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمَنُورِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمدؐ کے جو سردار ہیں مدد دیئے گیوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الظُّفْرِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمدؐ کے جو سردار ہیں فتح مندوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْوَارِثِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمدؐ کے جو سردار ہیں وارثوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْبُظْفِرِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمدؐ کے جو سردار ہیں فتح دیئے گیوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْبُرُوقِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمدؐ کے جو سردار ہیں رزق دیئے گیوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الرَّغْبِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمدؐ کے جو سردار ہیں رغبت والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الشُّفَقِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمدؐ کے جو سردار ہیں شفقت کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ النَّصْرِيِّنَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں مدد کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ السَّجِدِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں روزہ رکھنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ التَّوَّابِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں توبہ کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْهَالِقِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں اُلفت کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْبُيُوتِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں رجوغ کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْعَبِيدِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں عابدوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمَسْكِينِ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں مسکینوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْبَوَاقِينِ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں موانفقوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْهَرَفِيِّينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمدؐ کے جو سردار ہیں نرمی کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْفَائِزِيْنَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمدؐ کے جو سردار ہیں مراد کوڑھینے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْعَمَلِيْنَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمدؐ کے جو سردار ہیں عمل کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْعَائِذِيْنَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمدؐ کے جو سردار ہیں پناہ لینے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ النَّاجِيْنَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمدؐ کے جو سردار ہیں نجات پانے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الظَّهْرِيْنَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمدؐ کے جو سردار ہیں پاکوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الظَّهْرِيْنَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمدؐ کے جو سردار ہیں غالب ہونے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ التَّبَعِيْنَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمدؐ کے جو سردار ہیں سالحوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْفَاضِلِينَ

یا الہی درود بھیج ادیب محمد کے جو سردار ہیں فضیلت والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الشَّاكِرِينَ

یا الہی درود بھیج ادیب محمد کے جو سردار شکر کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ النُّطَهْرِينَ

یا الہی درود بھیج ادیب محمد کے جو سردار ہیں پاکیزگی پسند کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْبَطِيعِينَ

یا الہی درود بھیج ادیب محمد کے جو سردار ہیں فرمانبرداروں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمَرْحُومِينَ

یا الہی درود بھیج ادیب محمد کے جو سردار ہیں رحم کئے ہوؤں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْبَغْفُورِينَ

یا الہی درود بھیج ادیب محمد کے جو سردار ہیں مغفوروں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْفَضْلِينَ

یا الہی درود بھیج ادیب محمد کے جو سردار ہیں فضیلت والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الطَّالِبِينَ

یا الہی درود بھیج ادیب محمد کے جو سردار ہیں طالبوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْبَطُولِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں مطلوبوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْبَطْهَرِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں پاک کئے گیوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الصَّوَامِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں روزہ داروں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْقَوَامِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں قیام کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْأَوَابِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں رجوع کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْوَاصِلِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں جوڑنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْبَحْبِئِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں محبت کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْبُحْبُوبِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں دوستوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْبُورِودِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں وارد ہونے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمَقْبُولِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں مقبولوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُشْتَاقِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں مشتاقوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْعَاشِقِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں عاشقوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمَعشُورِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں معشوقوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْعَارِفِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں عارفوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْوَاعِظِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں واعظوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمَذْكُورِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں ذکر کئے گئے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ السَّعِيدِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمدؐ کے جو سردار ہیں تو نیکوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْبَعْثِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمدؐ کے جو سردار ہیں عظمت والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُبْلِغِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمدؐ کے جو سردار ہیں مبلغوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُنَادِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمدؐ کے جو سردار ہیں منادی کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْبُودِيَّيْنَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمدؐ کے جو سردار ہیں ادب کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْبُقَسْرِيِّينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمدؐ کے جو سردار ہیں تفسیر کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْبُعْلَبِيِّينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمدؐ کے جو سردار ہیں سکھانے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْعَقْلِيِّينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمدؐ کے جو سردار ہیں عقل مندوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْبَازِلِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں خرچ کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْأَجْرَدِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں سخیوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْتَعْبِدِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں عبادت کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ السُّتَيْعِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں سننے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْبُقَرَبِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں مقربوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْبَحْرِضِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں رغبت دلانے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْبَهْرَجِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں جوش کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْبَقْتَرَبِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں نزدیک والوں کے



اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُتَعَابِلِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں روبرو بیٹھنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ السَّبْحِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں تسبیح پڑھنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْبِقَدِّسِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں پاک لوگوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْبَرِّلِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں قرآن پڑھنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْبَأْمُولِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں امید دلانے گیوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْبَحَقِّينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں تحقیق کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْبَدَقِّينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں باریک بینیوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْبَدَاعِينِ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں بلانے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الصَّالِحِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں روزہ داروں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْحَسَنِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں نیکوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الزَّكَاةِ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں پاکوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْكَامِلِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں کاملوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ السَّائِقِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں پہلوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ السَّبُوحِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں پچھلوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْبَعُوضِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں بے گناہوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُحْفُوظِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں حفاظت رکھنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الشُّفَعَاءِ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں شفاعت کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الشُّفَعَاءِ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں شفاعت کیے گیوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْعَظَمَاءِ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں عظمت والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْبُورِغِيانِ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں الفت کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْأَطْهَرِيانِ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں غالبوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْبُتْدِيانِ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں تصدیق کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمَوْفِقِيانِ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں توفیق دیئے ہوؤں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْعَافِيانِ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں معاف کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْبَحْرَيْنِ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد جو سردار ہیں غمناکوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْبَسْرَيْنِ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں خوشی کے بہوؤں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْبُزْجَيْنِ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں آمارنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْبُتَيْلَيْنِ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں متانوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْأَمِينِ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں امن والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْتَوَاضِعِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں تواضع کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْبُفْكَرِيِّينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں سوچنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْبَبُولِيِّينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں عالموں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمَبْجَلِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں عزت کئے گیوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمَبْجَلِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں عالی شان والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُتَفَاخِرِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں فخر کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُتَحَمِّلِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں تحمل کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُتَوَسِّئِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں داغ لگانے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْقَاسِمِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں تقسیم کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْبُقِيَّيْنَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں مقیموں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمَسَافِرِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں مسافروں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُهَاجِرِينَ

یا الہی درود بھیج ادیر محمد کے جو سردار ہیں مہاجرین کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُطَهَّرِينَ

یا الہی درود بھیج ادیر محمد کے جو سردار ہیں غلبہ پائے گیوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْغَافِرِينَ

یا الہی درود بھیج ادیر محمد کے جو سردار ہیں بخشے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْبِرِّهِينَ

یا الہی درود بھیج ادیر محمد کے جو سردار ہیں حجت کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ السَّابِحِينَ

یا الہی درود بھیج ادیر محمد کے جو سردار ہیں تسبیح پڑھنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْعَالَمِينَ

یا الہی درود بھیج ادیر محمد کے جو سردار ہیں جہانوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْقَانِتِينَ

یا الہی درود بھیج ادیر محمد کے جو سردار ہیں فرما بزداروں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْبُغْيَةِ

یا الہی درود بھیج ادیر محمد کے جو سردار ہیں خروج کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الرَّاضِينَ

یا الہی درود بھیج اُوپر محمد کے جو سردار ہیں راضی ہونے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الرَّؤُوفِينَ

یا الہی درود بھیج اُوپر محمد کے جو سردار ہیں مہربانی کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ السَّهَّادِينَ

یا الہی درود بھیج اُوپر محمد کے جو سردار ہیں تہجد پڑھنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُسْتَغْفِرِينَ

یا الہی درود بھیج اُوپر محمد کے جو سردار ہیں بخشش مانگنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُتَعَفِّفِينَ

یا الہی درود بھیج اُوپر محمد کے جو سردار ہیں سوال سے بچنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْحَامِلِينَ

یا الہی درود بھیج اُوپر محمد کے جو سردار ہیں بوجھ اٹھانے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ ثَقِيعِ الْبَدَنِينِ

یا الہی درود بھیج اُوپر محمد کے جو سردار ہیں جو سفارش کرنے والے گنہگاروں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُنَادِيينِ

یا الہی درود بھیج اُوپر محمد کے جو سردار ہیں دین داروں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الرَّضِيِّينَ

یا الہی درود بھیج اویسہ محمد کے جو سردار ہیں راضی کرتے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْبَادِحِينَ

یا الہی درود بھیج اویسہ محمد کے جو سردار ہیں صفت کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْأَرْفَعِينَ

یا الہی درود بھیج اویسہ محمد کے جو سردار ہیں بلند مرتبہ والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْبِشْرِيِّينَ

یا الہی درود بھیج اویسہ محمد کے جو سردار ہیں خوش بھری سینے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْبَنَدِيِّينَ

یا الہی درود بھیج اویسہ محمد کے جو سردار ہیں ڈرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْبَدِيْرِينَ

یا الہی درود بھیج اویسہ محمد کے جو سردار ہیں تدبیر کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْبِشْبِيِّينَ

یا الہی درود بھیج اویسہ محمد کے جو سردار ہیں پرورش کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْبُخْلِصِيِّينَ

یا الہی درود بھیج اویسہ محمد کے جو سردار ہیں مخلصوں کے



اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْكَرِيمِينَ

یا الہی درود بھیج اویسہ محمد کے جو سردار ہیں ذکر کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْخَاضِعِينَ

یا الہی درود بھیج اویسہ محمد کے جو سردار ہیں عاجزی کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْخَاشِعِينَ

یا الہی درود بھیج اویسہ محمد کے جو سردار ہیں خشوع کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الرَّاجِينَ

یا الہی درود بھیج اویسہ محمد کے جو سردار ہیں امیدواروں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْيَوْمَلِينَ

یا الہی درود بھیج اویسہ محمد کے جو سردار ہیں تامل کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْأَوْعِينَ

یا الہی درود بھیج اویسہ محمد کے جو سردار ہیں پرہیزگاروں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْخَالِصِينَ

یا الہی درود بھیج اویسہ محمد کے جو سردار ہیں خالصوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْبُتُورِيِّينَ

یا الہی درود بھیج اویسہ محمد کے جو سردار ہیں پرہیزگاروں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْأَطْهَرِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں پاکوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْأَكْرَمِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں عزت والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْأَنْجَبِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں شریفوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمَكْرَمِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں نجات پانے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْأَشْجَعِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں بہادروں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْأَفْضَلِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں فضیلت والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْأَنْوَارِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں نور والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْبَعْرُوفِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں نیکی والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ السَّالِكِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں سالکوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْبَعَاهِدِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں عہد کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْهَادِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں ہدایت والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمَهْدِيِّينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں راہ پانے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُتَّقِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں رخصتی پکڑنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْبُكِّيِّينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں مرتبہ پانے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْفَائِزِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں فوجیت پانے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْفَاتِحِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں کھولنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ مَعَ الْأَرْضِ إِذَا

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے ساتھ زمین کے جب

بَدَلَتْ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ مَعَ الصُّوَرِ

بدلی جائے یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے ساتھ سینوں کے

إِذَا حُصِّلَتْ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ مَعَ

جب کھولے جاویں یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے ساتھ

الْحَسَنَاتِ إِذَا أَظْهَرَتْ اللَّهُمَّ صَلِّ

نیکیوں کے جب ظاہر کی جاویں یا الہی درود بھیج اوپر

عَلَى مُحَمَّدٍ مَعَ السِّيَّاتِ إِذَا أُبْدِلَتْ

محمد کے ساتھ برائیوں کے جب بدلی جاویں

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ مَعَ السِّيَّاتِ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے ساتھ برائیوں کے

إِذَا أَنْزَلَتْ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

جب چھوڑ دی جاویں یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے

مَعَ الْحَاجَاتِ إِذَا قُضِيَتْ اللَّهُمَّ

ساتھ حاجتوں کے جب قضا کی جاویں یا الہی

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ مَعَ الْجَنَّةِ إِذَا أُرِفَتْ

درود بھیج اوپر محمد کے ساتھ بہشت کے جب کہ قریب کی جاوے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ مَعَ النَّفُوسِ إِذَا

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے نفسوں کے جب ملائے

رُوحَاتِ الْأَمْمِنِ

جاویں یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو امانت دار ہیں

عَلَى وَحْيِكَ صَلَاةً لِأَحَدٍ لَهَا وَلَا مُنْتَهَى

اوپر وحی تیرے کے درود بے حد اور بے انتہا

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ بَعْدَ دِكْرِ كُلِّ مَعْلُومٍ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے ساتھ عدو کے کہ معلوم ہے

لَكَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

بجھ کر اور اوپر اولاد سردار محمد ہمارے کے اور برکت اور سلام

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ أَضْعَافَ مَا صَلَّيْتَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے کئی گنا اس چیز کا کہ درود

عَلَيْهِ جَمِيعِ الصَّالِحِينَ مِنَ السَّابِقِينَ

پر تھیں اوپر اس کے سب درود خواں اگلے

وَالْمُؤَحَّرِينَ أَضْعَافًا مِّضَاعَةً أَلْفَ

اور بیچھے دگن دگن کئی لاکھ

أَلْفِ أَلْفٍ فِي أَلْفِ أَلْفٍ وَصَلِّ كَذَلِكَ

اور درود بھیج اسی طرح

عَلَىٰ جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ وَعَلَىٰ

اوپر تمام نبیوں اور رسولوں کے اور اوپر

الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَعَلَىٰ أَهْلِ

فرشتوں مقربوں کے اور اوپر جو اہل

طَاعَتِكَ أَجْمَعِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ

طاعت تیرے ہیں سب یا الہی درود الہی اوپر

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ بَعْدَ كُلِّ شَيْءٍ

محمد کے اور اوپر آل محمد کے ساتھ کتنی ہر چیز کے جو

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَ

دنیا اور آخرت کے ہے رحمتیں اللہ کی اور

مَلَائِكَتِهِ وَأَنْبِيَآئِهِ وَرُسُلِهِ وَجَمِيعِ

فرشتوں اس کے کی اور نبیوں اس کے کی اور رسولوں اس کے کی اور تمام

خَلَقَهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَ

خلقت اس کے کی اوپر محمد کے جسروار ہیں رسولوں کے اور

إِمَامِ الْمُتَّقِينَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّينَ وَ

پیشوا پرہیزگاروں کے اور ختم کرنیوالے نبیوں کے اور

قَائِدِ الْغُرِّ الْحَجَلِيِّينَ وَشَفِيعِ الْبُدَّيْنِ

کھینچنے والے ہیں روشن پیشانی اور ہاتھ پاؤں والوں کے اور شفاعت

وَرَسُولِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَعَلَىٰ إِلَهٍ وَأَصْحَابِهِ

کرنیوالے گھنگاروں کے اور رسول پروردگار جہانوں کے اور اوپر آل اس کی اور یار اس کے

وَذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَأَحْفَادِهِ أَجْمَعِينَ

اور اولاد اس کی اور گھر والوں اس کے اور نواسوں اس کے سب کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَ

یا الہی درود بھیج اوپر جبرائیل اور میکائیل اور

إِسْرَافِيلَ وَعِزْرَائِيلَ وَمَنْكِرٍ وَنَكِيرٍ

اسرافیل اور عزرائیل اور منکر اور نکیر

وَالْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَعَلَىٰ حَمَلَتِهِ

اور فرشتے مقربوں کے اور اوپر اٹھانے والوں

الْعَرْشِ وَالْكَرَامِ الْكَاتِبِينَ اللَّهُمَّ

عرش کے اور کرام کاتبین کے یا الہی

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

درود بھیج اُوپر سردار ہمارے محمد کے اور اُوپر اولاد

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ صَلَوةً

سردار ہمارے محمد کے اور برکت اور سلام بھیج الیاد رُود

تُنَجِّنَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ الْاَهْوَالِ وَ

کہ خلاصی دے ہم کو ساتھ اس کے تمام خونوں اور

الْاَفَاتِ وَتَقْضِ لَنَا بِهَا جَمِيعَ

آفتوں سے اور پورا کرے تو واسطے ہمارے ساتھ اس کے تمام

الْحَاجَاتِ وَتَطَهِّرْنَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ

حاجتوں کے اور پاک کر ہم کو ساتھ اس کے تمام

السَّيِّئَاتِ وَتَرْفَعْنَا بِهَا عِنْدَكَ اَعْلَىٰ

برائیوں سے اور بلند کر دے ہم کو ساتھ اس کے نزدیک اپنے

الدَّرَجَاتِ وَتُبَلِّغْنَا بِهَا اَقْصَىٰ

اعلیٰ درجوں پر اور پہنچا دے ہم کو ساتھ اس کے



الْغَايَاتِ مِنْ جَمِيعِ الْخَيْرَاتِ فِي

منزل مقصود پر تمام نیکیوں سے بیچ زندگی

الْحَيَاةِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

کے اور بعد مرنے کے یا الہی درود بھیج اوپر

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

محمد کے اور اوپر آل محمد کے اور برکت بھیج

وَصَلِّ عَلَى جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالرَّسُلِينَ

اور سلامتی اور درود بھیج اوپر تمام نبیوں کے اور رسولوں کے

وَعَلَى عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا

اور اوپر بندے اپنے نیکیوں کے اور سلام بھیج سلام بہت

كَثِيرًا كَثِيرًا اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ

بہت یا الہی میں مانگتا ہوں تجھ سے بظہیر

هَذِهِ الصَّلَاةِ أَنْ تُكْرِمَنِي بِرُؤْيَا

اس درود کے یہ کہ عزت دے تو مجھے ساتھ دیدار

مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ فِي الْمَنَامِ وَ

محمد کے جو مہر نبیوں کے ہیں بیچ خواب کے اور

أَنْ تَغْفِرَ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلَا تَأْذِنِي وَ

یہ کہ بخش دے تو مجھے اور ماں باپ میرے اور استادوں میرے

لِجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ

اور تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں اور مسلمان

وَالسَّلَامَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ وَ

مردوں اور مسلمان عورتوں کو جو زندہ ہیں ان سے یا مردہ اور

تَجِيرِنِي مِنْ عَذَابِكَ وَتُوجِبَ لِي

بچا تو مجھ کو عذاب اپنے سے اور واجب کر میرے واسطے رضا مندی اپنی

رِضْوَانِكَ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا ط

اور سلام بھیج سلام بہت بہت ناکھ رحمت

بِرَحْمَتِكَ يَا رَحِمَ الرَّاحِمِينَ ط

اپنی کے لئے بڑے رحم کرنے والوں کے

پریشانی کے لیے

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ ط

## دُرُودِ نَبِیْرِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا

اے اللہ! درُودِ نبیِّج ہمارے آقا محمدؐ پر جس طرح

صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ

دُرُودِ بھیجا ہے تو نے ہمارے سردار ابراہیمؑ پر اور برکتیں

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

مازل فرما ہمارے آقا محمدؐ پر اور ہمارے آقا محمدؐ کی آلؑ پر

مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا

جس طرح برکتیں مازل فرمائی تو نے آلؑ ابراہیمؑ پر

إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ

سارے جہانوں میں بے شک تو ہی خیرِ خیروں سراج

مَجِيدٌ عَدَدَ خَلْقِكَ وَرِضَا نَفْسِكَ

گیا بزرگ ہے بشمار اپنی مخلوقات کے اور اپنی ذات

وَزِينَةَ عَرْشِكَ وَمِدَادَ كَلِمَاتِكَ

کی رضا کے اور اپنے عرش کے وزن کے اور اپنے کلمات کی

وَعَدَدَ مَا ذَكَرَكَ بِهِ خَلْقَكَ فِيمَا مَضَىٰ

سیاہی کے اور بشمار اُن کے جنہوں نے تیرا ذکر کیا تیری مخلوق سے گزشتہ

وَعَدَدَ مَا هُمْ ذَاكِرُونَكَ بِهِ فِيمَا بَقِيَ

زمانہ میں اور بشمار اُن کے جو تیرا ذکر کرنے والے ہیں آئندہ ہر

فِي كُلِّ سَنَةٍ وَشَهْرٍ وَجُمُعَةٍ وَيَوْمٍ

سال میں اور ہر مہینہ میں ہر جمعہ ، ہر دن

وَلَيْلَةٍ وَسَاعَةٍ مِّنَ السَّاعَاتِ وَنَهْمٍ

اور رات ہر گھنٹی میں سب گھنٹوں سے اور ہر

وَنَفْسٍ وَطَرْفَةِ لِسَانٍ وَمِنْ الْآبِدِ

سو ننگھنے میں اور چھانسن لینے میں آنکھ جھپکنے میں ہر لمحہ میں ابتداء

إِلَى الْآبِدِ وَأَبَادِ الدُّنْيَا وَأَبَادِ الْآخِرَةِ

زمانہ سے لے کر آخر تک اور دنیا کے سارے زمانوں اور

وَأَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ لَا يَنْقُطُ أَوْلَاهُ وَ

آخرت کے سارے زمانوں بلکہ اس سے بھی زیادہ نہ منقطع ہو اس

لَا يَنْفَدُ إِخْرَاطُ

کی ابتدا اور نہ ختم ہو اس کی انتہا

## دُرُودِ رِفَاعِي

یہ دُرُودِ حضرت سید احمد کبیر رِفَاعِيؒ کا ہے اور انہوں نے اسے اپنی کتاب المعارفِ المَحْمَدِيَّة میں لکھا ہے یہ دُرُودِ اسرارِ الہی اور معرفتِ حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے اس کے پڑھنے سے ایمان کو تقویت پہنچتی ہے۔ سکون اور اطمینانِ قلب ہوتا ہے۔ بلا حسابِ جہت میں جائے گا۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى نُوْرِكَ

اے اللہ دُرُودِ و سلام اور برکت فرما اپنے نورِ اولین

الْاَسْبِقِ وَصِرَاطِكَ الْمَحْفُوقِ مَنْ

پر اور صراطِ تیرا اپنے ثابت پر جس کو تو نے ظاہر

اَبْرَزْتَهُ رَحْمَةً شَامِلَةً لِيُجُودِكَ

کیا ہے رحمت جو شامل ہے تیرے وجود کو

وَاَكْرَمْتَهُ بِشُهُودِكَ وَاَصْطَفَيْتَهُ

اور عزت دی تو نے اپنے شہود کی اور چن لیا تو نے

لِنُبُوَّتِكَ وَرِسَالَتِكَ وَاَرْسَلْتَهُ بِشِيرَا

ان کو اپنی نبوت سے اور رسالت سے اور بھیجا تو نے ان کو بشارت

وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَيْكَ بِإِذْنِكَ وَسِرًّا

دینے والا اور ڈر ستانے والا اور بلانے والا تیری طرف تیرے اذن سے اور چرخ

مَنْيرًا نَقْطَةً مَرْكَزِ بَاءِ الدَّائِرَةِ الْأُولَى

روشن نقطہ مرکز باء دائرہ اولیہ کا

وَسِرِّ اسْرَارِ الْأَلْفِ الْقَطِيبَةِ الَّذِي

اور مجید الف قطبیت کے مجیدوں کا جس نے کھول دیا

فَتَقَّتْ بِهِ وَتَقَّ الْوَجُودِ وَخَصَّصَهُ

اس سے بندش وجود کی اور خاص کیا

بِأَشْرَفِ الْمَقَامَاتِ الْبُوهَبِ الْإِمْتِنَانِ

تو نے ان کو بہترین مقامات سے عطائے احسان

وَالْمَقَامِ الْبَحُّودِ وَأَقْسَتَ بِحَيَاتِهِ

اور مقام محمود اور قسم ذکر کی تو نے

فِي كَلَامِكَ الشُّهُودِ لِأَهْلِ الْكُشْفِ

آپ کی زندگی کی اپنی کلام میں جس کی گواہی دیتے ہیں اہل کشف

وَالشُّهُودِ فَهُوَ سِرٌّ الْقَدِيمِ السَّارِي

اور شہود پس وہ تیرے قدیم سرایت کرنے والے مجید ہیں۔

وَمَا لِيُجَوْهَرَ الْجَوْهَرِيَّةَ الْجَارِي

اور پانی جو ہریت کے جوہر کا جو جاری ہے

الَّذِي أَحْيَيْتَ بِهِ الْبُجُودَاتِ مِنْ

جس سے زندہ کیا تو نے موجودات کو چاہے وہ معدنی

مَعْدِنٍ وَحَيَوَانٍ وَنَبَاتٍ فَهُوَ قَلْبٌ

ہوں حیوانی ہوں نباتی ہوں پس وہ دلوں

الْقُلُوبِ وَرُوحِ الْأَمْرَاحِ وَعَلَمٌ

کے دل اور روحوں کی روح علامت ہیں

الْكَلِمَاتِ الطَّيِّبَاتِ الْقَلَمِ الْأَعْلَى

کلمات طیبات کی قلم اعلیٰ

وَالْعَرْشِ الْبَحِيظِ رُوحِ كَوْنِيْنِ

اور عرش محیط روح کونین

الْكُوْنِيْنِ وَبِرْزَخِ الْبَحْرِيْنِ وَثَانِي

کے جسم کی اور برزخ دونوں سمندروں کا اور دو کا

اِثْنَيْنِ وَفَخْرُ الْكُوْنِيْنِ أَبُو الْقَاسِمِ

اور فخر کونین کے ابو القاسم

سَيِّدِنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

سردار ہمارے محمد بن عبد اللہ بن

عَبْدِ الْمَطْلِبِ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ وَرَسُولُكَ

عبد المطلب تیرے بندے اور نبی اور رسول

النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

نبی امی اور آپ کی آل اور صحابہ پر اور سلام ہو

تَسْلِيْمًا بِقَدْرِ عَظَمَتِكَ فِي كُلِّ

بقدر تیری ذات کی عظمت کے ہر وقت اور آن میں

وَقْتٍ وَحَيْثُ سَبَّحْتَ رَبَّكَ رَبِّ

پاکی ہے تیرے رب رب العزت

الْعِزَّةِ عِبَا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَىٰ

کی اس سے جو لوگ بیان کرتے ہیں اور سلام ہو

الرَّسُولِينَ ۝ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

سب رسولوں پر اور سب تعریف واسطے کے جو پالنے والا جہانوں کا ہے



## دُرُودِ قَاضِل

اس دُرُودِ کے پڑھنے سے عظمت اور عزت بڑھتی ہے دل نرم ہو جاتا ہے۔ کوئی غم نہیں آتا۔ زندگی کا سفر آرام سے گزرتا ہے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ! ہمارے سردار محمد سید المرسلین پر

سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

دُرُودِ سَلَامِ بھجج اے اللہ ہمارے سردار محمد

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُجَاهِدِينَ

سید المجاہدین پر دُرُودِ سَلَامِ بھجج

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ ہمارے سردار محمد سید شاہدین پر

سَيِّدِ الشَّاهِدِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

دُرُودِ سَلَامِ بھجج اے اللہ ہمارے سردار

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْخَائِفِينَ

محمد سید الخائفین پر دُرُودِ سَلَامِ بھجج

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ ہمارے سردار محمدؐ سید الطاہرین

سَيِّدِ الطَّالِبِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

پر درود و سلام بھیج اے اللہ ہمارے سردار

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ التَّابِعِينَ ط

محمدؐ سید التابیین پر درود و سلام بھیج

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ ہمارے سردار محمدؐ سید العابدین

سَيِّدِ الْعَابِدِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

پر درود و سلام بھیج اے اللہ ہمارے سردار

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْحَامِدِينَ

محمدؐ سید الحامدین پر درود و سلام بھیج

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ ہمارے سردار محمدؐ سید الصالحین پر

سَيِّدِ الصَّالِحِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

درود و سلام بھیج اے اللہ ہمارے سردار

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْكَرَمِيِّينَ ط

محمد سید الاکریمین پر درود و سلام بھیج

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ ہمارے سردار محمد سید المنذرین پر

سَيِّدِ الْمُنْذِرِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

درود و سلام بھیج اے اللہ ہمارے سردار

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْبَشَرِيَّةِ

محمد سید البشرین پر درود و سلام بھیج

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ ہمارے سردار محمد سید الطیبین پر

سَيِّدِ الطَّيِّبِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

درود و سلام بھیج اے اللہ ہمارے سردار محمد

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْعَالَمِيِّينَ

سید العالمین پر درود و سلام بھیج

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ ہمارے سردار محمد نبی ترکی نفعی

النَّبِيِّ الزَّكِيِّ النَّعِيِّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

پر درود و سلام بھیج اے اللہ ہمارے

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الرَّاِكِعِينَ

سردار محمد سید الرکعین پر درود و سلام بھیج

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ ہمارے سردار محمد سید الساجدین

سَيِّدِ السَّاجِدِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

پر درود و سلام بھیج اے اللہ ہمارے سردار

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْقَائِمِينَ

محمد سید القائمین پر درود و سلام بھیج

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ ہمارے سردار محمد سید القاعدین پر

سَيِّدِ الْقَاعِدِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

درود و سلام بھیج اے اللہ ہمارے

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُتَّقِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ

سردار محمد سید المتقین پر درود و سلام بھیج اے اللہ ہمارے

وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ السُّعْفَرِيْنَ

سردار محمد سید المستغفرین پر درود و سلام بھیج

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ ہمارے سردار محمد سید النادین پر

سَيِّدِ النَّادِيْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی

درود و سلام بھیج اے اللہ ہمارے سردار

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الشَّاكِرِيْنَ اَللّٰهُمَّ

محمد سید الشاکرین پر درود و سلام بھیج اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

ہمارے سردار محمد سید الحافظین پر درود و سلام

الْحَافِظِيْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی

بھیج اے اللہ ہمارے سردار محمد

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الذَّاكِرِيْنَ اَللّٰهُمَّ

سید الزاکرین پر درود و سلام بھیج اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

ہمارے سردار محمد سید العاقلین پر درود و سلام

اَلْعَاقِلِيْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا

بھیج اے اللہ ہمارے سردار محمدؐ

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْبَحْسِيْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

سیدالبحسین پر درود و سلام بھیج اے اللہ ہمارے

وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْقُرَشِيِّ

سردار محمدؐ قریشی ہاشمی پر

اَلْهَاشِمِيِّ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى

درود و سلام اور برکت بھیج اے اللہ ہمارے سردار

سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْمَدَنِيِّ الْعَرَبِيِّ الْمَكْرُمِ

محمدؐ مدنی عربی روز قیامت کو

يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ

مکرم پر درود و سلام بھیج اے اللہ ہمارے سردار محمدؐ

عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ سَيِّدِ اَهْلِ الْجَنَّةِ

جو اہل جنت کے سردار ہیں پر درود و سلام اور برکت بھیج

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى مُحَمَّدِ صَاحِبِ

اے اللہ محمد صاحب مقام محمود پر درود و سلام

الْبِقَامِ الْبَحْوِدِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

بھیج لے اللہ ہمارے سردار محمد صاحب

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الصِّرَاطِ

صراط مستقیم پر درود سلام

الْمُسْتَقِيمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

بھیج لے اللہ ہمارے سردار

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَفْضَلِ الْأَخْرِيِّينَ اللَّهُمَّ

محمد جو آخرین میں افضل ہیں پر درود سلام

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

بھیج لے اللہ ہمارے سردار محمد اور تمام انبیاء

جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى

و مرسلین اور تمام ملائکہ مقربین اور

جَمِيعِ الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَعَلَى عِبَادِ

اللہ کے تمام نیک بندوں پر جو تمام

اللَّهِ الصَّالِحِينَ مِنْ أَهْلِ السَّمَوَاتِ

آسمانوں اور زمینوں میں ہیں

وَأَهْلَ الْأَرْضِينَ وَعَلَيْنَا مَعَهُم

اور ان کے ساتھ تمام پر لے

أَجْعَلِنَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ

سب سے زیادہ رحم کرنے

الرَّاحِمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا

وہے ساتھ اپنی رحمت کے درود و سلام بھیجے اللہ

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ وَسَلَّمَ

کی رحمت ہو سردار محمدؐ پر اور ان کی آلؑ پر اور ان کے صحابہؓ پر

أَجْعَلِنَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

سلامتی مجموعی طور پر اللہ کی صلوة اور سلامتی ہو ان پر

### دُرُودُ جَمْعِهِ

یہ درود جمعہ کے دن پڑھنے کا مخصوص درود ہے اس کے بے شمار فوائد اور فیوض و برکات ہیں اس کے پڑھنے سے اللہ پاک اس پر تین ہزار رحمتیں اتارے گا دو ہزار بار سلام بھیجے گا۔ پانچ ہزار نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھے گا۔ اس کے پانچ ہزار گناہ معاف کرے گا اس کے پانچ ہزار درجے بلند کرے گا۔ اللہ پاک اسے قیامت کے



کے دن شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ اس کو اعلیٰ حضرت کی طرف سے سب کو پڑھنے

کی اجازت ہے۔  
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى النَّبِیِّ الْاَرْمَنِ وَاٰلِهٖ

اے اللہ درود بھیج اپنے نبی اُمّی پر اور ان کی آل پر

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً وَسَلَامًا

اے اللہ درود بھیج ان پر اور سلام اے اللہ کے رسول

عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

آپ پر درود اور سلام ہو اے اللہ و اُمّی درود

دَائِمَةً مَّقْبُولَةً تَوَدِّعُنِيْ بِهَا عَنَاوَعَنْ

بھیج جو تیری درگاہ میں مقبول ہو کثرت کر اس کے ساتھ

اَهْلِ هٰذَا الْبَيْتِ حَقَّهُ الْعَظِيْمَ وَ

ان پر اور ان کی اہل بیت پر عظمت حق کے ساتھ اور

تَزِيْدًا بِهَا عَلَيْنَا وَعَلَى اَهْلِ هٰذَا

دباہ کر اس کے ساتھ ہم پر اور ان کی اہل بیت پر

الْبَيْتِ فَضْلَهُ الْعَظِيمَ وَصَلِّ عَلَى

ساتھ اپنے فضل عظیمی کے ساتھ اور رحمت

الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ

نازل فرما - مؤمنین اور مؤمنات اور مسلمان مرد

وَالْمُسْلِمَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ

اور مسلمان عورتوں پر جو زندہ اور موت پر

يَا رَبِّ مُحَمَّدٍ صَلَّى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ

اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب ان پر درود بھیج

وَأَوْلِيَاءِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ اللَّهُمَّ اجْعَلْ

اور ان کی آل پر اور آپ کے صحابہ پر اور آپ کے اولیاء پر برکت اور سلام ہو لے اللہ

بِقِرَائَتِهَا وَكِتَابَتِهَا فِي هَذَا الْبَيْتِ

کریں جو پڑھا جاتا ہے اور لکھا جاتا ہے اس گھر میں رحمت

رَحْمَةً وَرَاحَةً وَشِفَاءً وَعَافِيَةً وَرِزْقًا

راحت اور شفاء اور عافیت اور رزق

حَسَنًا وَخَيْرًا كَثِيرًا وَسَلَامًا وَارْفَعَ

حسنہ اور خیر کثیر اور مٹھنڈک اور سلامتی

بِقِرَاتِهَا وَكِتَابَتِهَا عَنْ هَذَا الْبَيْتِ

اور دور کر ساتھ پڑھنے اور لکھنے کے اس گھر سے۔

وَأَهْلَ هَذَا الْبَيْتِ كُلِّ بَلَاءٍ وَوَبَاءٍ

اور اس گھر کے اہل سے تمام آفات اور وبا

وَفِتْنَةٍ وَفَسَادٍ وَفَقْرٍ وَكُفْرٍ وَكَافِرٍ

اور آزمائش اور فساد اور غربت اور کفر اور کافر

وَكُلِّ شَرِّ اللَّهِمْ نَسَلِكْ بِمَا عَفَوْا

اور تمام شر سے لے اللہ ہم اس کے فریضے عفو

وَعَافِيَةٍ إِنَّكَ قُلْتَ وَقَوْلِكَ الْحَقُّ

اور عافیت کا سوال کرتے ہیں بے شک آپ کا قول اور فعل

أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عِبْدِي بِي يَا رَبِّ مُحَمَّدٍ

حق ہے جو میں تیرا بندہ ہونے کی صورت میں گمان کرتا ہوں اے محمد کے

صَلِّ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَأَوْلِيَاءِهِ

رب ان پر درود بھیج اور ان کی آل پر آپ کے صحابہ پر اور آپ کے اولیاء پر

وَبَارِكْ وَسَلِّمْ كَمَا هُوَ أَهْلُهُ وَكَمَا تَحِبُّ

برکت اور سلامتی ہو جیسا کہ وہ اس کے اہل ہیں اور جیسا کہ تیری محبت

وَتَرْضَىٰ لَهُ وَعَالِيْنَا وَعَلَىٰ أَهْلِ هَذَا

اور تیری رضا ہے اور ہم پر اور اس گھوکے اہل پر

الْبَيْتِ مَعَهُمْ وَاجْعَلْنَا أَهْلًا لِّذَلِكَ

جو ان کے ساتھ ہیں کر دے ہمیں اس کے اہل جیسا کہ ہے

اللَّهُمَّ كُلَّ يَوْمٍ وَكُلَّ لَيْلَةٍ وَكُلَّ

اے اللہ تمام دن تمام رات تمام

سَاعَةٍ وَكُلَّ لِحَاةٍ صَلَاةٍ تَتَوَالَىٰ وَ

ساعت اور تمام لمحات درود بھیج اے زندہ

تَدْوِمُ مَرِيْدًا وَإِمْرًا لِّلْمَلِكِ الْحَيِّ الْقَيُّومِ

اور قائم رہنے والے مالک ہمیشہ ہمیشہ اے

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَمْرٍ وَإِجْتِنَا وَذُرِّيَّتِنَا

ہمارے رب ہماری ازواج اور اولاد کو

فَرْدًا أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلتَّقِيْنَ إِمَامًا

آنکھوں کی ٹھنڈک کر دے اور ہمارے لیے اہل تقویٰ کے لیے

رَبِّ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنَ

اے ہماری رب ہم سے ہر قسم کے شیطاں سے تیری

وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ رَبِّ

پناہ مانگتے ہیں اور رب کی پناہ مانگتے ہیں یہ کہ حاضر

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ

کے جائیں اللہ کی پناہ ساتھ ہمیشہ رہنے والے اللہ کے کلمات

مَا خَلَقَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ سَلَامٌ

سے جو برائی میں سے ہے حضرت ابراہیمؑ پر سلام ہو

عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ سَلَامٌ عَلَىٰ آلِ

حضرت موسیٰؑ پر اور ہارون پر سلام اور سلام ال

يَسِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ

یسین اور سلام ہو حضرت نوح علیہ السلام پر

وَسَلَامٌ عَلَى الْبُرْسَلِينَ سَلَامٌ قَوْلًا

دو قول جہانوں میں اور سلام ہو برسین پر سلامتی ہو اپنے

مِّن رَّبِّ الرَّحِيمِ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ

رب رحیم کے قول پر اور سلامتی ہو

مَطْلَعِ الْفَجْرِ

فجر ہونے تک

# دُرُودِ مُسْتَعَاثِ

مستعاث کے معنی التجا اور فریاد رسی ہیں اس دُرُودِ شریف میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات جمیلہ کے وسیلہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور پر دُرُود بھجنا، نزول رحمت کی بار بار فریاد کی گئی ہے اس لیے اسے دُرُودِ مستعاث کہا گیا ہے۔ یہ دُرُود بڑی برکات اور فضیلت کا حامل ہے۔

اس کا ہر لفظ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات سے معمور ہے۔ چشتیہ سلسلہ کے بزرگوں نے اپنے مریدوں کو اس دُرُود پاک کی اجازت دی ہے۔ اس دُرُود پاک کے بے شمار فوائد ہیں جس گھر میں یہ پڑھا جائے اس گھر میں اتفاق اور آپس میں محبت رہتی ہے۔ ہر کام میں خیر و برکت رہتی ہے اولاد ناقربان ہو تو پانی پر دم کر کے پلاویں فرمانبردار ہو جائے گی۔ اس کا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے دُرُودِ شریف پڑھ لیا کریں۔



# دُرُودِ مَسْتَعَاثُ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي زَيَّنَ النَّبِيْنَ بِحَبِيْبِهِ

تمام تعریفیں ثابت ہیں واسطے اللہ کے جس نے زینت دی نبیوں کو ساتھ حبیب

الْبُصْطَفَى وَمَنْ عَلَى الْبُؤْمَيْنِ بِنَبِيِّهِ

اپنے پیغمبر چیدہ کے اور احسان کیا اوپر مومنوں کے ساتھ نبی کریم اپنے

الْمَجْتَبَى الصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَى رَسُوْلِهِ

برگزیدہ کے درود و سلام اوپر رسول کریم کے جو نام

مُحَمَّدٍ خَيْرِ الْوَرَى هُ الْبَسِيْرِيْهِ مِنْ

مبارک ان کا محمد ہے بہتر خلق کے وہ نبی کہ سیر کرایا گیا ان کو عرش

فَوْقَ الْعَرْشِ اِلَى تَحْتِ الشُّرَى هُ

مجید سے زمین کے نیچے تک

الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا مَضَى وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

تمام تعریفیں واسطے اللہ کے اُوپر اس چیز کے جو گزری اور تمام تعریفیں

عَلَى مَا بَقِيَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ

اللہ کی اُوپر گنتی اس چیز کے جو باقی ہے درود اور سلام اُوپر

وَمُحَمَّدٍ خَيْرِ الْوَرَى مَدْحُكَ يَا رَسُولَ

رسول اللہ کے جو محمد ہیں بہتر خلق کے تعریف کی میں نے تیرے لیے لے

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأَرْمِيِّ أَنْتَ

رسول اللہ درود بھیجے اللہ تعالیٰ اُوپر نبی کریم اُمّی کے تمہیں

خَيْرُ اللَّهِ طِيبَاتُ الْبَسْمَاتِ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ

یا نبی برگزیدہ اللہ کے ہو فریاد پیچھے گئے طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے

تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ

درود اور سلام اُوپر آپ کے لے رسول اللہ کے

اللَّهُ وَارِثُ الْأَنْبِيَاءِ رَسُولُ صَاحِبِ

جو وارث ہیں انبیاء کے لے رسول جو صاحب وحی

الْوَحْيِ أَحْمَدُ شَفِيعُ اللَّهِ الْبَسْمَاتِ

ہیں نام آپ کا احمد ہے جو شفاعت کرنے والے ہیں خدا کی درگاہ میں



إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ

فریاد! طرف درگاہ خدا تعالیٰ کے دُود اور سلام

عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَسُولَ سَيِّدِ

آپ پر اے رسول اللہ کے ایسے رسول جو سردار ہیں

الْكُونَيْنِ وَالثَّقَلَيْنِ وَإِمَامِ الْقِبْلَتَيْنِ

دو جہان کے اور دونوں گروہوں جن والنس کے اور امام ہیں دو قبلوں

شَفِيعِ الْأُمَمِ فِي الدَّارَيْنِ فَاتِحِ

کے شفاعت کرنیوالے ہیں اُمتوں کے دونوں جہان میں کھولنے والے مشکلوں

اللَّهِ السَّعَاتِ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى

کے جاری کرنے والے امر اللہ کے فریاد! طرف درگاہ اللہ کے

الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

دُود اور سلام اوپر آپ کے اے رسول اللہ کے

النَّبِيِّ الْبَصِطِ رَسُولِ سِرَاجِ الْعَالَمِينَ

ایسے نبی جو برگزیدہ ہیں رسول چراغ تمام جہانوں

مِنْ حُودِ مَطِيبِ اللَّهِ السَّعَاتِ إِلَى

کے تعریف کئے گئے پاک کئے گئے اللہ کے فریاد! طرف

حَضْرَةَ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود اور سلام

عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ السَّيِّدِ الْبَعْلِ

اوپر آپ کے لئے رسول اللہ کے سردار بلند مرتبہ والے

رَسُولِ نَبِيِّ الْخَافِقِينَ قَاسِمِ خَيْرِ

رسول نبی اہل مشرق اور مغرب کے بانٹنے والے

خَلَقِ اللَّهُ السَّمْعَاتِ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ

بہتر خلق اللہ کے فریاد ! طرف درگاہ خدا تعالیٰ کے

تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ

درود اور سلام اوپر آپ کے لئے رسول

اللَّهُ السَّمْعَاتِ يَا رَسُولَ اللَّهِ السَّمْعَانَ

اللہ کے فریاد اے رسول اللہ کے دعا

يَا رَسُولَ اللَّهِ الشَّفَاعَاتِ يَا رَسُولَ اللَّهِ

اے رسول اللہ کے شفاعتیں فرمائیے اے رسول اللہ کے

الْخَلَاصِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْلَى مِنْ

رہائی اے رسول اللہ کے بہتر تمام اللہ

عِبَادِ اللَّهِ أَفْضَلُنَا رَسُولَ نَبِيِّ صَاحِبِ

کے بندوں سے افضل ہمارے رسول نبی صاحبی ساتھی

الدَّارَيْنِ خَادِمٌ طَيِّبٌ اللَّهُ الْبَسْتَعَاتُ

دونوں جہان کے خادم پاکیزہ اللہ کے فریاد:

إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود اور سلام

عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ النَّبِيُّ الْمُرَكِّي

اوپر آپ کے اے رسول اللہ کے نبی پاک کیے گئے ایسے رسول

رَسُولِ تَاجِ الْحَرَمَيْنِ أَمْرِنَاهُ تَاجِ

جو تاج ہیں مکہ معظمہ مدینہ منورہ کے حکم دینے والے نیک کاموں

ظَاهِرِ اللَّهِ الْبَسْتَعَاتُ إِلَى حَضْرَةِ

کے منع کرنے والے بدی سے پاکیزہ اللہ کے فریاد: طرف درگاہ

اللَّهُ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ

اللہ تعالیٰ کے درود اور سلام اوپر آپ کے

يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا رَسُولُ جَدِّ

اے رسول اللہ کے ہدایت کیا ہم کو رسول نے جو ناما

الطَّيِّبِينَ الْحَسَنِينَ وَالْحُسَيْنِينَ دَاعِ

ہیں دو پاکوں حسن اور حسین کے بلانے والے

مَطْهَرًا لِلَّهِ الْمَسْتَغَاثُ إِلَى حَضْرَةِ

خدا کی طرف پاکیزہ اللہ کے فریاد ! طرف درگاہ

اللَّهُ تَعَالَى الصَّلَاةِ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ

اللہ تعالیٰ کے درود اور سلام اوپر آپ کے

يَا رَسُولَ اللَّهِ الْمَسْتَغَاثُ يَا رَسُولَ

اے رسول اللہ کے فریاد ! اے رسول

اللَّهُ الْمَسْتَعَانُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هُ

اللہ کے مدد کیجئے اے رسول اللہ کے

الشفاعاتِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ط الْخَلَاصُ

شفاعت کیجئے اے رسول اللہ کے رہائی !

يَا رَسُولَ اللَّهِ نَبِيَّ مَحْتَارٍ مَرْضِي

اے رسول اللہ کے نبی پسند کیے گئے برگزیدہ کیے گئے

إِمَامٍ رَسُولٍ مُقْتَدَى الرَّسَالَةِ

پیشوا رسول اقتدا کیے گئے اماموں کے جو

الْبَهْدِيِّينَ هَادٍ مُّبِينٌ وَاللَّهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

ہدایت یافتہ ہیں ہدایت دینے والے ظاہر کرنے والے اللہ کے فریاد

إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ

طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود اور سلام

عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَدَانَا رَسُولٌ

اوپر آپ کے لئے رسول اللہ کے راستہ سیدھا دکھایا ہم کو رسول

بِهَدَايَةِ اللَّهِ تَعَالَى مُهْدِي الْأُمَّةِ

نے مطابق ہدایت اللہ تعالیٰ کے راہ راست پر لانے والے

مِنَ الضَّلَالَةِ مُهْتَدٍ مُطِيعٌ لِلَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ

امت کے گمراہی سے ہدایت یافتہ فرمانبردار اللہ کے فریاد

إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ

طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود اور سلام

عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ حَبِيبِنَا رَسُولٌ

اوپر آپ کے لئے رسول اللہ کے محبوب ہمارے ایسے رسول

مُهْدِي الْأُمَّةِ مُحَمَّدًا وَرَسُولًا صَفِيًّا

جو ہدایت کرنے والے ہیں امت کو محمدؐ اور رسولؐ برگزیدہ

حُجَّةُ اللَّهِ طُ الْبَسْتَعَاتُ إِلَى حَضْرَةِ

دلیل اللہ کے فریاد طرف درگاہ

اللَّهُ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ

اللہ تعالیٰ کے درود اور سلام اوپر آپ کے

يَا رَسُولَ اللَّهِ طُ الْبَسْتَعَاتُ يَا رَسُولَ

اے رسول اللہ کے فریاد! اے رسول اللہ

اللَّهُ طُ الْبَسْتَعَانُ يَا رَسُولَ اللَّهِ طُ الشَّفَاعَاتُ

کے مدد کیجئے اے رسول اللہ کے شفاعت کیجئے

يَا رَسُولَ اللَّهِ طُ الْخَلَاصُ يَا رَسُولَ اللَّهِ

اے رسول اللہ کے رهایی اے رسول اللہ کے کہ نام

مُحَمَّدًا أَحْمَدًا حَامِدًا مَحْمُودًا مَحْبُوبًا

آپ کا محمد ہے احمد ہے حمد ہے محمود ہے پیارے خدا

مُحِبُّ اللَّهِ وَمُحِبِّنَا رَسُولُ كَرِيمِ اللَّهِ

کے دوست رکھنے والے اور ہم سے محبت کرنے والے رسول کریم اللہ کے

مَرْضَى حَبِيبِنَا رَسُولُ كَرِيمِ مَرْضَى

برگزیدہ ہمارے محبوب رسول صاحب کرم مقبول

خَلِيفَةُ اللَّهِ طُ الْبِسْتَعَاتُ إِلَى حَضْرَةِ

خليفة اللہ کے فریاد! طرف درگاہ

اللَّهُ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا

اللہ تعالیٰ کے درود اور سلام اوپر آپ کے

رَسُولَ اللَّهِ طُ رَسُولِنَا رَسُولَ عَلِيٍّ الدَّوَامِ

اے رسول اللہ کے رسول ہمارے رسول اور ہمیشگی کے نبی

نَبِيِّ طُ هُ يَسِ قَائِمِ حَامِدِ اللَّهِ طُ السُّتَعَا

نظم نبی قیام کرنے والے عبادت میں تعریف کرنے والے اللہ

إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

کے فریاد! طرف درگاہ اللہ تعالیٰ درود اور سلام

عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ طُ أَمِيرِنَا رَسُولَ وَ

اوپر آپ کے اے رسول اللہ کے امیر ہمارے رسول اور

نَبِيِّ كَرِيمِ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ طُ إِسْمَاءُ أَحْمَدُ

نبی صاحب کرم محمد رسول اللہ کے نام آپ کا احمد

نَاصِرِ كَلِيمِ اللَّهِ طُ الْبِسْتَعَاتُ إِلَى حَضْرَةِ

ہے مدد دینے والے کلام کرنے والے اللہ سے فریاد! طرف درگاہ

اللَّهُ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا

اللہ تعالیٰ درود اور سلام اوپر آپ کے

رَسُولَ اللَّهِ السَّعَاتِ يَا رَسُولَ اللَّهِ

اے رسول اللہ کے فریاد ! اے رسول اللہ کے

السَّعَاتِ يَا رَسُولَ اللَّهِ الشَّفَاعَاتِ

مدد کیجئے اے رسول اللہ کے شفاعت فرمائیے

يَا رَسُولَ اللَّهِ الْخَلَاصِ يَا رَسُولَ

اے رسول اللہ کے رہائی ! اے رسول

اللَّهُ مَعِينًا رَسُولَ وَرَبِّي الْيَاسِينَ

اللہ کے مدد کرنے والے ہمارے رسول اور موقی چکدار نبی کریم

إِمَامٍ آمِينَ اللَّهُ السَّعَاتِ إِلَى

وہ نام مبارک یاسین ہے بیشوا امانت دار اللہ کے فریاد ! طرف

حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود اور سلام اوپر

عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مُصَدِّقًا

آپ کے اے رسول اللہ کے تصدیق کرنے والے



رَسُولٌ وَجَبِيْبٌ نَبِيٌّ مَّرْمَلٌ بِيَانٌ

ہمارے پیغمبر اور محبوب نبی کلیم پوش بیان کرنے والے

رَسُولُ اللّٰهِ السُّتَغَاتُ اِلَى حَضْرَةٍ

رسول اللہ کے فریاد! طرف درگاہ

اللّٰهُ تَعَالَى الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ

اللہ تعالیٰ کے درود اور سلام اوپر

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ شَاهِدُنَا شَافِعُنَا رَسُوْلَ

آپ کے اے رسول اللہ کے شاہد ہمارے شفاعت کرنے والے ہمارے

وَنَبِيٍّ مَدِيْرٍ صَاحِبِ الْقُرْآنِ نُوْرٍ اِللّٰهِ

رسول اور نبی لباس پوش صاحب قرآن کے نور اللہ کے

السُّتَغَاتُ اِلَى حَضْرَةٍ اللّٰهُ تَعَالَى الصَّلٰوةُ

فریاد! طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود

وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ السُّتَغَاتُ

اور سلام اوپر آپ کے اے رسول اللہ کے فریاد!

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ السُّتَعَانُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ

اے رسول اللہ کے درود کیجئے اے رسول اللہ کے

الشَّفَاعَاتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْخَلَاصُ

شفاعت کیجئے اے رسول اللہ کے ربانی !

يَا رَسُولَ اللَّهِ مَذْكِرًا رَسُولَ مَعْمَرٍ

اے رسول اللہ کے یاد دلانے والے ہمارے رسول خوشبودار

الرُّوحِ مُطَهِّرِ الْجَسْمِ يَا جَوَادُ اللَّهِ

روح والے پاک جسم والے نیکی کرنے والے سخی اللہ کے

الْبِسْتَاغَاتُ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ

فریاد ! طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود

وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ سُلْطَانُ

اور سلام اوپر آپ کے اے رسول اللہ کے بارشاہ

الْأَنْبِيَاءِ وَبِرَهَانِ الْأَصْفِيَاءِ مَفْحَرْنَا

نبیوں کے اور دلیل اہل صفا کے جن پر ہم کو فخر ہے

رَسُولِ صَاحِبِ الْقُرْآنِ عَلِيٍّ مَكِّيٍّ

رسول قرآن والے بلند مرتبے والے مکہ والے

تَشْكُورِ اللَّهِ ط الْبِسْتَاغَاتُ إِلَى حَضْرَةِ

شکر گزار اللہ کے فریاد ! طرف درگاہ

اللّٰهُ تَعَالٰى الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا

اللہ تعالیٰ کے درود اور سلام اوپر آپ کے لئے

رَسُولَ اللّٰهِ ؕ اِمَامُ الْاَتْقِيَاءِ نَاصِرُنَا

اللہ کے رسول امام پر مہیزگاروں کے مدد کرنے والے

رَسُولٌ صَاحِبُ الْكَوْثَرِ مَرِيٌّ مَدِيْنِيٌّ

ہمارے رسول صاحب حوض کوثر کے مری مدینہ والے

مُنِيْرٌ اَللّٰهُ السُّتَغَاثُ اِلَى حَضْرَةِ اللّٰهِ

نورانی نبی اللہ کے فریاد! طوفان درگاہ اللہ

تَعَالٰى الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ

تعالیٰ کے درود اور سلام اوپر آپ کے لئے رسول

اللّٰهِ ؕ اَللّٰهُ السُّتَغَاثُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ السُّتَعَانُ

اللہ کے فریاد! لئے رسول اللہ کے مدد کیجئے

يَا رَسُولَ اللّٰهِ ؕ الشُّفَاعَاتُ يَا رَسُولَ

اے رسول اللہ کے / شفاعت فرمائیے لئے رسول اللہ

اللّٰهِ ط الْخَلَاصُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ سِرَاجٌ

کے ریلانی! لئے رسول اللہ کے چراغ

الْأَوْلِيَاءِ ضِيَاءًا وَنَا رَسُولُ صَاحِبِ الْمِيزَانِ

ولیوں کے روشنی ہمارے رسول صاحب میزان

أَبْطَحِي قَرِيبًا لِلَّهِ الْمَسْتَعَاثُ إِلَى

کے مٹے والے مقرب اللہ کے فریاد! طرف

حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَيْكَ

درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود اور سلام اوپر

يَا رَسُولَ اللَّهِ بَرَهَانَ الْأَصْفِيَاءِ رَسُولُ

آپ کے اے رسول اللہ کے برہان اہل صفا کے رسول

صَاحِبِ الْبَرَقِ سَيِّدِ الْقَوْمِ عَرَبِيٍّ نَبِيٍّ

براق والے سردار قوم کے عرب والے نبی

اللَّهُ الْمَسْتَعَاثُ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى

اللہ کے فریاد! طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے

الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

درود اور سلام اوپر آپ کے اے رسول اللہ کے

شَفِيعِنَا رَسُولُ مَجْرِي مَهْدِي قَرِيبِي

شفیع ہمارے رسول نیک جزا دینے والے ہدایت یافتہ قریشی

شَهِيدُ اللَّهِ ط السُّعَاتُ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ

شاہد اللہ کے فریاد طرف درگاہ اللہ

تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ

تعالیٰ کے درود اور سلام اوپر آپ کے لئے رسول

اللَّهُ ط السُّعَاتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ط السُّعَاتُ

اللہ کے فریاد لئے رسول اللہ کے مدد کیجئے

يَا رَسُولَ اللَّهِ ط الشِّفَاعَاتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ

لئے رسول اللہ کے شفاعت فرمائیے لئے رسول اللہ کے

الْخَلَاصُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ط إِمَامُ الْمُؤْمِنِينَ

رہائی لئے رسول اللہ کے پیشوا مومنوں کے

وَزِينَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَوَسِيلَتُنَا

اور زینت نبیوں اور پیغمبروں کے اور وسیلہ ہمارے

رَسُولٌ خَادِمُ الْفُقَرَاءِ حِجَازِيٌّ بَدَائِرُ

رسول خدمت کرنے والے فقروں کے حجاز والے اللہ کے قمر

اللَّهُ ط السُّعَاتُ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى

سے ڈرنے والے فریاد! طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے

الصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

درود اور سلام اور پر آپ کے لئے رسول اللہ کے

خَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ أَحْمَدًا وَخَيْرِ النَّبِيِّينَ

آخر آنے والے نبیوں کے نام مبارک آپ کا احمد ہے اور آخر سب انبیاء کے

رَسُولِ مَا حَى الْكُفْرِ وَالْبِدْعَةِ مُحَمَّدٍ

رسول مٹانے والے کفر کے اور بدعت کے محمد

بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَسْتَعَاثُ إِلَى حَضْرَةِ

بیٹے عبد اللہ کے فریاد ! طرف درگاہ

اللَّهُ تَعَالَى الصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَيْكَ يَا

اللہ تعالیٰ کے درود اور سلام اور پر آپ کے لئے

رَسُولَ اللَّهِ صَدَقَ رَسُولُنَا مُرْسَلٌ

رسول اللہ کے سچ فرمایا رسول ہمارے نے پیغمبر

مَنْ وَسِطَ رَسُولٌ رَحِيمِ اللَّهِ الْمَسْتَعَاثُ

میانہ رو رسول رحیم اللہ کے فریاد !

إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ

طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود اور سلام

عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ط اَلْبَسْتَا بْتُ يَا

اوپر آپ کے لئے رسول اللہ کے فریاد ! لئے

رَسُولَ اللَّهِ ط اَلْبَسْتَا بْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ط

رسول اللہ کے مدد کیجئے لئے رسول اللہ کے

اَلشَّفَاعَاتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ط اَلْخَلَاصُ

شفاعت فرمائیے لئے رسول اللہ کے رہائی

يَا رَسُولَ اللَّهِ ط سَيِّدَنَا رَسُولَ اللَّهِ ط مَسْعِيَتُ

لئے رسول اللہ کے سردار ہمارے پیغمبر فریاد چاہنے والے

مَقْصِدًا حَلِيمًا اَللَّهُ ط اَلْبَسْتَا بْتُ اِلَى

میانہ روی کرنے والے بردبار بندے اللہ کے فریاد ! طرف

حَضْرَةَ اللَّهِ تَعَالَى ط اَلصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ

درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود اور سلام

عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ط اَعْتَنَا يَا رَسُولَ

اوپر آپ کے لئے رسول اللہ کے فریاد کو پہنچنے لئے رسول

اَلثَّقَلَيْنِ اَنْتَ حَقٌّ مَبِينٌ اَللَّهُ ط

انسانوں اور جنوں کے آپ پر حق ہیں ظاہر کرنے والے اللہ کے

الْبَسْتِغَاتُ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ

فریاد ! طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود

وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَبْعِينَ مَرَّةً

اور سلام اوپر آپ کے لئے رسول اللہ کے (ہر کلمہ

کلمہ خواندہ شود الْبَسْتِغَاتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ

تین بار پڑھا جائے) فریاد ! اے رسول اللہ کے

الْبَسْتِغَانُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الشَّفَاعَاتُ

مدد کیجئے اے رسول اللہ کے شفاعت کیجئے

يَا رَسُولَ اللَّهِ اَلْمَشْفَعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ

اے رسول اللہ کے شفا رشت فرمائیے اے رسول اللہ کے

وَاعْظُنَا رَسُولُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ الْبِحَبِيبِ

نصیحت کرنے والے ہم کو رسول اللہ اور ایسے رسول اللہ کے جو برگزیدہ

صَاحِبِ الرِّسَالَةِ اَوَّلَ قَدِيمِ حَبِيبِ

صاحب رسالت ہیں پہلے ہیں شروع سے (پیشوا) ہیں محبوب

اللَّهُ الْبَسْتِغَاتُ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى

ہیں اللہ کے فریاد ! طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے



الرَّسُولُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

درود اور سلام اوپر آپ کے لئے رسول اللہ کے

الْبِسْتَعَانُ يَا رَسُولَ اللَّهِ

فریاد ! اے رسول اللہ کے مدد کیجے

يَا رَسُولَ اللَّهِ الشَّفَاعَاتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ

اے رسول اللہ کے شفاعت فرمائیے اے رسول اللہ کے

الْخَلَاصُ يَا رَسُولَ اللَّهِ

رہائی ! اے رسول اللہ کے سب سے زیادہ ہم پر کرم کر نیوالے

صَاحِبِ الشَّرِيعَةِ وَكَاشِفِ الْغُمَّةِ

شریعت والے اور غمخواروں کو دور کرنے والے آخر

أَخْرَجَ عَزِيزُ اللَّهِ الشَّرَّ إِلَى

(بہینبر) عزیز اللہ کے فریاد ! طرف

حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَالسَّلَامُ

درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود اور سلام

عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَهْلَ التَّقْوَى

اوپر آپ کے لئے رسول اللہ کے تقویٰ والے

وَبِرَهَانَ الْأَقْبِيَاءِ رَشِيدَانَا رَسُولِ

اور برہان پر ہمیزگاروں کے ہم کو نیک ہدایت کرنے والے رسول

صَاحِبِ الطَّرِيقَةِ شِفَاءً وَفِصِيحَةً اللَّهُ

صاحب شریعت شفا دینے والے خوشگوار اللہ کے

الْبَسْتِغَاتُ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى

سرباد طرف درگاہ اللہ تعالیٰ

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

درود اور سلام اوپر آپ کے اے رسول اللہ کے

أَمَّا بِكَ أَنْتَ نَبِينَا رَسُولُ صَاحِبِ

ایمان لائے ہم آپ پر آپ ہمارے نبی ہیں رسول ہیں صاحب

الْحَقِيقَةِ مَضْرِي بِبَشِيرِ نَذِيرِ اللَّهِ

معرفت ہیں منسوب طرف مضر کے بشارت دینے والے ڈرانے والے اللہ سے

الْبَسْتِغَاتُ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى

سرباد طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

درود اور سلام اوپر آپ کے اے رسول اللہ کے

الْاِسْتِغَاثُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ط اَلْاِسْتِغَاثُ

مزید لے رسول اللہ کے مدد کیجئے

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ط الشَّفَاعَاتُ يَا رَسُوْلَ

لے رسول اللہ کے شفاعت کیجئے لے رسول

اللّٰهِ ط الْخَلَاصُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ط اِمَامُ

اللہ کے رہائی لے رسول اللہ کے امام

الْاُمُوْرُ مَقْدِمًا رَسُوْلًا صَاحِبُ الْبَعْرِوَةِ

امتوں کے ہم کو جنت میں پہنچانے والے رسول صاحب معرفت

بُرْهَانُ رَحْمَةِ اللّٰهِ ط اَلْاِسْتِغَاثُ اِلَى

کے دلیل رحمت اللہ کے مزید طرف

حَضْرَةِ اللّٰهِ تَعَالَى ط الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود اور سلام

عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ط كَبِيْرًا رَسُوْلًا

اوپر آپ کے لے رسول اللہ کے بزرگ ہمارے رسول

صَاحِبُ الْبَيِّنَاتِ ظَاهِرٌ كَرِيْمٌ اللّٰهِ ط

صاحب احسان کے غالب کریم اللہ کے

الْبِسْتَعَاتُ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى

فریاد ! طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

درود اور سلام اُوپر آپ کے اے رسول اللہ کے

سَيِّدُ الْعَالَمِينَ رَسُولُ صَاحِبِ الْجَنَّةِ

تیکہ گاہ گنہگاروں کے رسول صاحب جنت کے

فَارِغْ جَهَنَّمَ سُلْطَانُ تَهَاوِي مُؤْمِنٌ

خالی کرنے والے دوزخ کے بادشاہ تہاوی یعنی مکہ معظمہ والے ایمان

اللَّهُهِ الْبِسْتَعَاتُ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى

لاسنے والے اللہ پر فریاد طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

درود اور سلام اُوپر آپ کے اے رسول اللہ کے

الْبِسْتَعَاتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْبِسْتَعَانُ

فریاد ! اے رسول اللہ کے مدد کیجئے

يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الشَّفَاعَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ

اے رسول اللہ کے شفاعت کیجئے اے رسول اللہ کے

الْخَلَاصُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَ فِ قِيهِتَا

رہائی ! اے رسول اللہ کے دانا ہمارے

رَسُولٌ صَاحِبُ الصَّرَاطِ مُبْلِغُ عَاقِبِ

رسول صاحب صراط کے پہنچانے والے پیچھے آنے

اللَّهُ هَ السَّتَغَاتُ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ

والے نبی اللہ کے قریب ! طرف درگاہ اللہ

تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ

تعالیٰ درود اور سلام ادر آپ کے اے رسول

اللَّهُ هَ أَنْتَ وَلِيُّنَا رَسُولُ صَاحِبِ الشَّفَاعَاتِ

اللہ کے آپ ہمارے ولی ہیں رسول صاحب ہیں شفاعتوں کے

بِأَذَلِّ بَاطِنٍ خَيْلٍ اللَّهُ هَ السَّتَغَاتُ

سختی ہیں صاحب باطن ہیں پیارے ہیں اللہ کے قریب !

إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود اور سلام ادر

عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَ شَفِيعِ عَوَامِنَا

آپ کے اے رسول اللہ کے شفاعت کرنے والے

رَسُولٌ صَاحِبُ النَّارِ وَالْبِعْرَاجِ مُكَلَّلٌ

ہم سب کے پیغمبر "تاج" اور معراج کے حلال کرنے

يَا ذِينَ اللَّهِ السُّعَاتُ إِلَى حَضْرَةٍ

وہ اللہ کی اجازت سے فریاد! طرف درگاہ

اللَّهُ تَعَالَى الصَّلَاةِ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا

اللہ تعالیٰ کے درود اور سلام اور آپ کے

رَسُولُ اللَّهِ السُّعَاتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ

اے رسول اللہ کے فریاد! اے رسول اللہ کے

السُّعَاتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الشَّفَاعَاتُ

مدد کیجئے اے رسول اللہ کے شفاعت فرمائیے

يَا رَسُولَ اللَّهِ الْخَلَاصُ يَا رَسُولَ

اے رسول اللہ کے رہائی! اے رسول اللہ

اللَّهُ وَمِنَ النَّارِ مُخْلِصِنَا رَسُولُ

کے اور دوزخ سے پھرانے والے ہم کو رسول

صَاحِبِ الْبِحْرَابِ حَاشِيَ نَبِيِّ اللَّهِ

صاحب محراب کے جمع کرنے والے نبی اللہ کے

الْبَسْتَعَاتُ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ

فریاد طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود

وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفْضَلُ

اور سلام اوپر آپ کے لئے رسول اللہ کے افضل

مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

سب نبیوں سے اور صدیقوں سے اور شہیدوں کے

وَالصَّالِحِينَ مَجْبُوبًا رَسُولُ صَاحِبِ

اور نیکو کاروں کے پیارے ہمارے رسول صاحب

الْمِنْبَرِ خَطِيبِ رَحْمَةِ اللَّهِ ط الْبَسْتَعَاتُ

منبر کے خطبہ دینے والے رحمت اللہ کے فریاد

إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود اور سلام

عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا مَبَشِّرٌ يَا رَسُولَ

اوپر آپ کے لئے رسول اللہ کے بشارت دینے والے ہم کو

صَاحِبِ الْبَيْتِ عَامِرِ كَعْبَةَ اللَّهِ ه

رسول صاحب بیت اللہ کے آباد کرنے والے کعبۃ اللہ کے

السُّبُحَاتُ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةِ

فریاد ! طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود

وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ السُّبُحَاتُ

اور سلام اوپر آپ کے لئے رسول اللہ کے فریاد!

يَا رَسُولَ اللَّهِ السُّبُحَاتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ

اے رسول اللہ کے مدد کیجئے اے رسول اللہ کے

السُّبُحَاتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْخَلَاصُ

شفا عت فرمائیے اے رسول اللہ کے رہائی

يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكْبَرَنَا رَسُولُ صَاحِبِ

اے رسول اللہ کے بزرگ ہمارے رسول صاحب

الْبِعْرَاجِ عَالِمِ غَيْبِ اللَّهِ السُّبُحَاتُ

معراج کے عالم غیبی اللہ کے فریاد!

إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ

طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود اور سلام

عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَبِيُّ الْآخِرِ الزَّمَانِ

اوپر آپ کے لئے رسول اللہ کے نبی آخر زمانہ کے



رَسُولٌ صَاحِبُ الْاِجْتِهَادِ مِنْكُمْ مَكْرَمٌ

رسول صاحب اجتہاد کے بدلہ لینے والے

اللَّهُهِ السُّتَغَاتُ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى

بزرگ بنائے ہوئے اللہ کے فریاد! طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے

الصَّلَاةِ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

درود اور سلام اوپر آپ کے لئے رسول اللہ کے

وَفِي الدِّينِ صَادِقًا رَسُولٌ صَاحِبٌ

اور دین میں راست گو رسول رفیق روز قیامت

الْقِيَامَةِ نَاطِقٌ بِالْحَقِّ شَفِيعٌ لِلَّهِ

کے حق فرمانے والے شفاعت کرنے والے اللہ کے

السُّتَغَاتُ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى

فریاد! طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے

الصَّلَاةِ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

درود اور سلام اوپر تیرے لئے رسول اللہ کے

السُّتَغَاتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ السُّتَعَانُ

فریاد! لئے رسول اللہ کے بدو کیجئے

يَا رَسُولَ اللَّهِ الشَّفَاعَاتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ

اے رسول اللہ کے شفاعت کیجئے اے رسول اللہ کے

الْخَلَاصُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مُشْفِعِ الْأُمَّةَ

رہائی ! اے رسول اللہ کے شفاعت قبول کیے گئے دیکھ

يَعِينُنَا بِالشَّفَاعَةِ رَسُولُ صَاحِبِ الْبَيْتِ

اُمت کے مدد کرنے والے ہمارے ساتھ شفاعت کے رسول صاحب نبوت

مُحَرَّمِ نَبِيِّ اللَّهِ الْمَسْتَعَاثُ إِلَى حَصْرَةٍ

کے حرمت کئے گئے نبی اللہ کے فریاد ! طرف درگاہ

اللَّهُ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا

اللہ تعالیٰ کے درود اور سلام اوپر آپ کے اے

رَسُولَ اللَّهِ نَبِيَّ الرَّحْمَةِ سَابِقًا

رسول اللہ کے نبی رحمت کے نیک کام کی طرف ہم سے سبقت

رَسُولُ صَاحِبِ الدَّارَيْنِ حَرِيصٌ عَلَى

کرنے والے رسول صاحب دونوں جہان کے حرص کرنے والے

الطَّاعَةِ رِعْوَفُ اللَّهِ الْمَسْتَعَاثُ إِلَى

طاعت پر مہربان بندے اللہ کے فریاد طرف

حَضْرَةَ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ

درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود اور سلام اوپر

يَا رَسُولَ اللَّهِ سَيِّدُ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ نَاهٍ

اے رسول اللہ کے سردار جن اور انسان کے منع کرنے

نَبِيِّنَا رَسُولٍ صَاحِبِ الْأُمَّةِ وَالنِّعْمَةِ

وہ بڑے کاموں سے نبی ہمارے رسول صاحب امت کے اور صاحب نعمت کے

هَاشِمِيٍّ كِرَامَةِ اللَّهِ الْمُسْتَعَاثُ إِلَى

اولاد ہاشم کے بزرگ اللہ کے زیادہ طرف

حَضْرَةَ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ

درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود اور سلام اوپر آپ کے

يَا رَسُولَ اللَّهِ خَادِمُ الْحَرَمَيْنِ وَجَدُّ

اے رسول اللہ کے خدمت کرنے والے حرمین کے اور نانا

الْحَسَنِينِ وَصَاحِبِ قَابِ قَوْسَيْنِ

حسن اور حسین کے اور صاحب قاب قوسین کے

رَسُولٍ حَبِيبٍ قَرِيبٍ اللَّهِ الْمُسْتَعَاثُ

رسول محبوب مغرب اللہ کے زیادہ

إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ

طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے درُود اور سلام

عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ط مَقْرِبًا رَسُولُكَ

اوپر آپ کے اے رسول اللہ کے نزدیک کرنے والے ہم کو رسول

إِلَى رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى مِائَةِ أَلْفِ

طرف رحمت اللہ تعالیٰ کے لاکھوں درُود

صَلَاةٍ وَسَلَامٍ وَرَحْمَةٍ وَبَرَكَاتٍ عَلَى

اور سلام اور رحمت اور برکت اوپر

أَكْرَمِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَصْفِيَاءِ خَاتِمِ رُسُلِ

بندگ ترین نبیوں کے اور اہل صفاء کے آخر اللہ کے

اللَّهِ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ الْبُصْطَفَى وَ

پیغمبروں کے محمد رسول اللہ کے جو برگزیدہ ہیں اور

حَبِيبِهِ الْمُرْتَضَى وَصَفِيهِ الْبِجْتَبَى

خدا کے برگزیدہ محبوب پر اور خدا کے صاف باطن مقبول بندے

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا

پر رحمت نازل فرمائے اللہ اوپر آپ کے اور آپ کی آل کے اور سلام بھیجے

كَثِيرًا كَثِيرًا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

بہت بہت اپنی رحمت سے اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے

اللَّهُمَّ ارْحَمْنَا يَا بَكْرًا النَّفِيُّ وَعُمَرَ النَّفِيُّ

اے اللہ رحمت بھیج ابوبکر صاحب تقویٰ پر اور عمر پر کہ پاک ہیں

وَعُثْمَانَ الزُّكِّيَّ وَعَلِيَّ بْنَ الْوَلِيِّ أَسَدَ اللَّهِ

اور عثمان پر کہ پاک ہیں اور علی پر جو دغا کرنے والے شیر خدا

الْمُرْتَضَى وَقَاطِمَةَ الزُّهْرَاءِ وَخَدِيجَةَ

کے برگزیدہ اور حضرت قاطمہ الزہراء پر اور حضرت خدیجہ

الْكُبْرَى وَأُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ

کبریٰ پر اور مسلمانوں کی ماں حضرت عائشہ

الصِّدِّيقَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَالْحَسَنَ

صدیقہ پر راضی ہوا اللہ ان سے اور امام حسن صاحب

الرِّضَا وَالْحُسَيْنَ الشَّهِيدَ الْبِجْتَبِيَّ

رضا پر اور امام حسین شہید برگزیدہ پر

وَأَشْهَدَ أُمَّ الْكَرْبَلَاءِ وَالسَّعْدَ وَالسَّعِيدَ

اور تمام شہداء کربلا پر اور سعد اور سعید

وَ طَلْحَةَ وَالزَّيْدَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ

اور طلحہ اور زید اور عبد الرحمن

بْنِ عَوْفٍ وَأَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ

بن عوف اور ابو عبیدہ بن جرّاح

وَالْعَشْرَةَ الْبَشِيرَةَ وَسَائِرَ الصَّحَابَةِ

اور اس کے اصحاب پر کہ خوش خبری دیئے گئے ہیں جنت کی اور تمام

وَالْخُلَفَاءَ الرَّشِيدِينَ وَالتَّابِعِينَ مِنْ

اصحاب پر اور خلفاء راشدین پر اور صحابہ کے دیکھنے والے مومنوں

أَهْلِ الْأَرْضِينَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ

پر آسمان والوں میں سے اور زمین والوں میں سے رضائے الہی ان سب

أَجْمَعِينَ هَاسَأَلُكَ أَنْ تَغْفِرَ لِي وَلِجَمِيعِ

کے ساتھ ہو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ بخشش دیجئے مجھ کو اور تمام

الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ

مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو اپنی رحمت سے اے سب

الرَّحِمِينَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدِي

سے زیادہ رحم کرنے والے اے اللہ بخش دے مجھ کو اور میرے والدین کو

وَلِمَنْ تُوَالَدَ وَأَرْحَمَهُمَا كَبَارَتِيَانِي

اور میری اولاد کو اور رحم کر ان دونوں پر جیسا پرورش کی

صَغِيرًا وَأَعْفِرْ لِي جَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَ

انہوں نے میری بچپن میں اور بخش دے تمام ایمان والوں کو اور

الْمُؤْمِنَاتِ وَالسَّلَامِينَ وَالسَّلَامَاتِ

ایمان والیوں کو اور اسلام والوں کو اور اسلام والیوں کو

الْحَيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ إِنَّكَ مُجِيبُ

جو زندہ ہیں ان میں سے اور جو فوت ہو چکے ہیں بیشک آپ

الدَّعَوَاتِ وَمُنْزِلُ الْبَرَكَاتِ وَرَافِعُ

دعائیں قبول کرنے والے ہیں اور نازل کرنے والے ہیں برکتوں کے اور

الدَّرَجَاتِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ

بلند کرنے والے ہیں درجوں کے اور رحمت بھیجے اللہ اوپر بہترین خلق اپنی کے

مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ

نام آپ کا محمد ہے اور ان کی اولاد اور اصحاب سب پر اپنی رحمت سے

بِأَرْحَمِ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

اے سب سے زندہ رحم کرنے والے اے اللہ رحمت نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الطَّاهِرِ

ہمارے سردار محمد جو نبی امی ہیں پاکیزہ

الزَّكِيِّ صَلَاةً تَحُلُّ بِهَا الْعُقَدُ وَفَاءً

اور پاک باطن ہیں ایسی رحمت کہ جس کی برکت سے ہمارے باطن کی

بِهَا الْكُرْبُ صَلَاةً تَكُونُ لَكَ رِضَى

گرہیں کھل جائیں اور بے چینیاں دور ہو جائیں ایسی رحمت جو آپ کے لیے

وَلِحَقِّهِ إِدَاءٌ وَعَلَىٰ آلِهِ وَآزْوَاجِهِ

رضا مندی اور ان کے حق کی ادائیگی کا سبب ہو اور آپ کی آل اور آپ کی بیویوں

وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارِكْ

اور آپ کے گھر والوں اور آپ کے صحابہ پورا برکت اور

وَسَلِّمْ

سہم بھیج

جب بھی کسی مصیبت دہلایا تو فناک امر کے پیش آنے کا اندیشہ ہو یا کسی بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہو جائے تو کثرت سے ان الفاظ کا ورد کرے جو یہ ہیں۔

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا

کافی ہے ہمارے لیے اللہ اور وہ بہت ہی اچھا کارساز ہے اللہ پر ہی ہم نے بھروسہ کیا ہے



## دُرُودِ کِبْرِیْتِ اَحْمَر

اس دُرُودِ شَرِیْفِی کے پڑھنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے  
عشق و محبت کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے اور دل کو تسکین ہو جاتی ہے  
یہ دُرُودِ شَرِیْفِی حضرت محبوب سبحانی غوثِ صمدانی عبد القادر جیلانی رضی اللہ  
تعالیٰ عنہ کا خاص انخاص درود ہے یہ درود اپنے عامل کے ظاہر کو نورانی  
اور باطن کو روشن کر دیتا ہے۔ طالبِ حق کا دل اس کے فیض سے اسرارِ تجلیات  
کا مرکز بن جاتا ہے دل کے حجابات دُور اور روشن ہو جاتے ہیں غرضیکہ دینی و  
دنوی ظاہری و باطنی انعامات سے مالا مال اور ہر کام میں کامیابی، ہر میدان  
میں فتح یابی حاصل ہوگی۔ خدا کی خوشنودی و رضا مندی اور دیدارِ مصطفیٰ صلی  
اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ دُرُودِ شَرِیْفِی بہترین وسیلہ اور آسان ترین ذریعہ  
ہے۔ شیخِ کامل کی اجازت شوق و محبت اور خلوص نیت سے پڑھا جائے  
تو حضور سرورِ دو عالم صلی اللہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔



# دَرُودِ کَبِیْرِیْتِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللّٰهُمَّ اجْعَلْ اَفْضَلَ صَلَوَاتِكَ عَدَدًا

اے اللہ نازل کیجئے اپنی رحمتوں میں سے بہترین رحمت باعتبار شمار کے

وَأَنْتَ بَرَکَاتِكَ سَرْمَدًا وَأَمْرًا

اور اپنی سب سے زیادہ تر برکتوں کو باعتبار دوام کے اور اپنے

مَحِیَاتِكَ فَضْلًا وَمَدَدًا عَلٰی اَشْرَفِ

سلاموں میں سے پاکیزہ تر کو باعتبار فضل اور مدد کے اُوپر بزرگ

الْحَقَائِقِ الْاِنْسَانِیَّةِ وَمَعْدِنِ الدَّقَائِقِ

تر حقیقتوں انسانیہ کے اور کان ایمان والی باریکیوں کے

الْاِیْمَانِیَّةِ وَطُورِ التَّجَلِّیَّاتِ الْاِنْسَانِیَّةِ

اور اُوپر طور (نام بہار کا) انسان تجلیات کے

وَمَهْبِطِ الْأَسْرَارِ الرَّحْمَانِيَّةِ وَوَاسِطَةِ

اور جائے نزول خداوندی بھیدوں کے اور پیوندینے

عَقْدِ النَّبِيِّينَ وَمُقَدَّمَةِ جَيْشِ

وائے گرہ پیغمبروں کے اور ہراول شکر

الْمُرْسَلِينَ وَأَفْضَلِ الْخَلَائِقِ أَجْمَعِينَ

پیغمبروں کے اور اوپر بہترین جملہ مخلوقات

حَامِلِ لِيَوَاءِ الْعِزِّ الْأَعْلَى وَمَلِكِ

اٹھانے والے جھنڈے بزرگی کے اور مالک

أَزْمَةِ الشَّرَفِ الْأَسْنَى شَاهِدِ أَسْرَارِ

مہاروں بزرگی روشن تر کے واقف بھیدوں

الْأَثَرِ وَالْمُشَاهِدِ الْأَنْوَارِ السَّابِقِ الْأَوَّلِ

ازل کے اور دیکھنے والے انوار کے جو سابق اور پہلے

وَتَرْجُمَانِ لِسَانِ الْقَدَمِ وَمَنْبَعِ الْعِلْمِ

پس اور بیان کرنے والے زبان ہمیشگی کے اور چشمہ علم

وَالْحَلِيمِ وَالْحَكِيمِ وَمَطْهَرِ سِرِّ الْجُودِ

اور بردباری اور حکمتوں کے اور جائے طہور بھید بخشش

الْجَزِي وَالْكَلِيَّ وَالْإِنْسَانَ عَيْنِ الْوَجُودِ

جزئی اور کلی کے اور پتلی آنکھ ہستی علوی

الْعُلُوِّيَّ وَالسُّفْلِيَّ وَمَا وَجَّهَ جَسَدِ الْكَوْنَيْنِ

اور سفلی کے اور جان جسم دونوں جہان

وَعَيْنِ حَيَاتِ الدَّارَيْنِ الْمَتَخَلِّقِ بِأَعْلَى

کے اور اصل زندگی دنیا اور آخرت کے خرگبر

رُتْبَةِ الْعِبُودِيَّةِ الْمَتَحَقِّقِ بِأَسْرَارِ

ساتھ برترین رتبہ بندگی کے ثابت آراستہ ساتھ

الرُّبُوبِيَّةِ صَاحِبِ الْبَقَاتِ الْأَصْطَفَائِيَّةِ

بھیدل ربوبیت کے صاحب مقامات برگزیدگی کے

وَالْكَرَامَاتِ الْإِرْتِضَائِيَّةِ سَيِّدِ الْأَشْرَافِ

اور کرامات پسندیدگی کے سرور بزرگوں کے

وَجَامِعِ الْأَوْصَافِ الْخَلِيلِ الْأَعْظَمِ

اور جامع اوصاف حمیدہ کے جو صاحب عظمت

وَالْحَبِيبِ الْأَكْرَمِ الْمَخْصُوصِ بِأَعْلَى

دوست ہیں اور محبوب ہیں بڑے کریم خاص کئے گئے ساتھ بلند

الْمَرَاتِبِ وَالْمَقَامَاتِ وَالْمَوْجِدِ بِأَوْضَحِ

مرتبوں کے اور مقاموں کے اور مدد کئے گئے ساتھ

الْبِرَاهِينِ وَالذَّلَالَاتِ الْمَنْصُورِ بِالْعَبْدِ

روشن ترین دلیلوں اور رہنمائیوں کے مدد کئے گئے ساتھ عبد کے

وَالْمَعْجَزَاتِ وَالْجَوْهَرِ الشَّرِيفِ الْاَيْدِي

اور معجزات کے اور جوہر بزرگ دائمی

وَالنُّورِ الْقَدِيمِ الْبَحْمَدِيِّ السَّرْمَدِيِّ

اور نور قدیم محمدی سرمدی کے

سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ بْنِ الْمُحَمَّدِ فِي الْاَيْجَادِ

سردار ہمارے محمد کے پسندیدہ بیچ پیدائش کے اور

وَالْوَجُودِ الْفَاتِحِ لِكُلِّ شَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ

ہستی کے ابتداء کرنے والے واسطے ہر ایک دیکھنے والے اور دیکھے گئے

وَحَضْرَةِ الشَّاهِدِ وَالشَّهَادَةِ نُوْرِكِلِّ

اور درگاہ مکانوں روشنی اور ظاہر ہونے کے نور ہر چیز کے

شَيْءٍ وَّهْدَاةٍ وَسِرِّ كُلِّ سِرٍّ وَسَنَاةٍ

اور راہنما اس کے اور بھید ہر بھید کے اور روشنی اس

الَّذِي شَقَّقَتْ مِنْهُ الْأَسْرَارُ وَأَنْفَلَتْ

کے وہ ذات کہ کھولے گئے اس سے بھید اور روشن ہوئے

مِنْهُ الْأَنْوَارِ السِّرِّ الْبَاطِنِ وَالنُّورِ الظَّاهِرِ

اس سے انوار باطن کے بھید کے اور نور ظاہر کے

السَّيِّدِ الْكَامِلِ الْفَاتِحِ الْخَاتِمِ الْأَوَّلِ

سرور کامل ابتداء کرنے والے تمام کرنے والے اول

الْآخِرِ الْبَاطِنِ الظَّاهِرِ الْعَاقِبِ الْحَاشِرِ

آخر پوشیدہ ظاہر پیچھے آنے والے اٹھانے والے

النَّاهِي الْأَمْرَ النَّاصِحِ النَّاصِرِ الصَّابِرِ

منع کرنے والے حکم کرنے والے نصیحت کرنیوالے مدد کرنے والے صبر کرنے والے

الشَّاكِرِ الْقَانِتِ الذَّاكِرِ الْبَاحِي الْمَاجِدِ

شکر کرنے والے دعا مانگنے والے ذکر کرنے والے مٹانے والے غالب

الْعَزِيزِ الْحَامِدِ الْمُؤْمِنِ الْعَايِدِ الْمُتَوَكِّلِ

بزرگ حمد کرنے والے یقین کرنے والے عبادت کرنے والے توکل کرنے والے

الزَّاهِدِ الْقَائِمِ الْقَاعِدِ الرَّكِعِ السَّاجِدِ

زہد کرنے والے کھڑے ہونے والے نماز میں بیٹھنے والے رکوع کرنے والے سجدہ

التَّابِعِ الشَّهِيدِ الْوَلِيِّ الْحَمِيدِ الْبِرِّهَانِ

کرنے والے تابع گواہ دوست خدا تعریف کی گئی دلیل

الْحُجَّةِ الْبَطَّاءِ الْبَحَارِ الْخَاضِعِ

حجت اطاعت کیے گئے برگزیدہ عاجزی کرنے والے

الْخَاشِعِ الْبِرِّ السَّنْصِرِ الْحَقِّ الْبَيِّنِ

فرد تنہا کرنے والے شک مدد کرنے والے راست درویش

ظَهْ يَسِ الْبَزْمِلِ الْبَدْرِ سَيِّدِ

ظہ یس کبیل پوش چادر لپٹنے والے سردار

الْبُرْسَلِيِّنَ وَإِمَامِ الْبَقِيَّةِ وَخَاتِمِ

پیغمبروں کے اور پیشوا پر ہمیزگاروں کے اور آخر تمام

النَّبِيِّنَ وَحَبِيبِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

نبیوں کے اور دوست پروردگار تمام جہانوں کے

النَّبِيِّ الْمِصْطَفَى وَالرَّسُولِ الْبَجْبِي

پیغمبر برگزیدہ اور رسول مقبول

وَالْحَكَمِ الْعَدْلِ اللَّطِيفِ الْخَبِيرِ

اور منصف عادل پاکیزہ خبردار

الْحَكِيمِ الْعَلِيمِ الْعَزِيزِ الرَّؤُوفِ الرَّحِيمِ

دانا جاننے والے غالب محبت والے مہربان

الْعَفْوِ الشُّكْرِ الْعَلِيِّ الْكَرِيمِ نُورِكَ

بخشنے والے شکر کرنے والے برتر بزرگ آپ کے نور

الْقَدِيمِ وَصِرَاطِكَ السَّبْقِيِّ مُحَمَّدٍ

قدیم اور راہ آپ کی جو سیدھی محمد

عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَصَفِيكَ وَخَلِيْلِكَ

بندے تیرے اور رسول تیرے اور برگزیدہ تیرے اور دوست تیرے اور

وَحَبِيْبِكَ وَوَلِيِّكَ وَنَبِيِّكَ وَامِيْنِكَ

حبیب تیرے اور ولی تیرے اور نبی تیرے اور امانت دار تیرے

وَدَلِيْلِكَ وَنَجِيْكَ وَنَخِيْبِكَ وَذَخِيْرِكَ

اور تیرا راستہ دکھانے والا اور ہماز تیرے اور برگزیدہ تیرے اور ذخیرہ تیرے

وَخِيْرَتِكَ وَامَامِ الْخَيْرِ وَقَائِدِ الْخَيْرِ

اور مختار تیرے اور پیشوا نیکی کے اور کھینچنے والے نیکی کے

وَرَسُوْلِ الرَّحْمَةِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الْعَرَبِيِّ

اور بھیجے ہوئے واسطے رحمت کے پیغمبر امی عربی کے



الْقَرَشِيُّ الْهَاشِمِيُّ الْإِبْطَاحِيُّ الْمَكِّيُّ

قبیلہ قریش سے اولاد ہاشم کے بطحا والے مکہ والے

الْمَدَنِيُّ الْيَهُامِيُّ الشَّاهِدِيُّ الشُّهُودِيُّ

مدینہ والے تھامہ والے گواہ گواہی دیئے گئے

الْوَلِيُّ الْمُقَرَّبِيُّ الْعَبْدُ السَّعُودِيُّ الْجَبِيْبِيُّ

دوست مقرب بندے نیک محبوب سفارش کریں گے

الشَّفِيعُ الْحَسِيبُ الرَّفِيعُ الْمَلِيحُ الْبَدِيعُ

صاحب حب بلند مرتبہ ملاحمت والے نادر

الْوَاعِظُ الْبَشِيرُ النَّذِيرُ الْعَطُوفُ الْحَلِيمُ

نصیحت کرنے والے بشارت دینے والے ڈرانے والے بہت مہربان سخیل والے

الْجَوَادُ الْكَرِيمُ الطَّيِّبُ الْمُبَارَكُ الْمَكِينُ

سخی بخشش کرنے والے پاک صاحب برکت صاحب مرتبہ

الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ الْأَمِينُ الدَّاعِي

سچے سچائے گئے امانت دار بلانے والے

إِلَيْكَ بِأَذْنِكَ السِّرَاجُ الْمُنِيرُ الَّذِي

خلق کو طرف تیرے حکم تیرے سے چراغ روشن ایسے کہ جس نے جانا

أَدْرَكَ الْحَقَائِقَ بِجَبْهَتِهَا وَفَانَتْ وَفَاقَ

اہل چیزوں کو تمام دکھال اور کامیاب ہوئے اور بالا ہوئے مخلوقات

الْخَلَائِقَ بِرُؤْسِهَا وَجَعَلَتْهُ حَبِيبًا وَ

پر ساری اور بنایا تو نے ان کو دوست اور

نَاجِيَةً قَرِيبًا وَأَدْنَيْتَهُ رَقِيبًا وَخَسَّتْ

ہمراز کیا تو نے ان کو قرب ہے اور نزدیکی دی تو نے ان کو لگھبان

بِهِ الرِّسَالَةَ وَالذَّلَالََةَ وَالْبَشَارَةَ وَ

ہو کر اور ختم کی تو نے ان پر رسالت اور راہنمائی اور خوشخبری اور

الذِّمَارَةَ وَالنَّبُوَّةَ وَنَصَرْتَهُ بِالرُّعْبِ

ڈرنے اور نبوت کو اور مدد کی تو نے ان کی ساتھ دہشت کے

وَظَلَّمْتَهُ بِالسُّحْبِ وَمَرَدَدْتْ لَهُ

اور سایہ دیا تو نے ان کو ابر کا اور پھیرا تو نے واسطے ان کے

الشَّمْسَ وَشَقَقْتْ لَهُ الْقَمَرَ وَأَنْطَقْتْ

آفتاب کو اور بھاڑا تو نے واسطے ان کے چاند کو اور گویا کیا تو

لَهُ الصَّبَّ وَالظَّبْيَ وَالذَّبَّ وَالْجَذْعَ

نے واسطے ان کے سوسہار اور سہرن اور بھیڑیے کو اور تنا درخت

وَالذَّرَاعُ وَالْجَبَلُ وَالْجَبَلُ وَالْمَدَارُ

اور بازو اور اونٹ اور پہاڑ اور ڈھیلا اور

الشَّجَرُ وَالْحَجَرُ وَأَنْبَعَتْ مِنْ أَصَابِعِهِ

درخت اور پتھر کو اور نکالا تو نے ان کی انگلیوں

الْمَاءَ الزَّلَّالَ وَأَنْزَلَتْ مِنَ الْمُرْنِ

سے پانی بیٹھا اور نازل کی تو نے ابر سفید سے ان کی

يَدَعُوْتِهِ فِي عَامِ الْبَحْلِ وَالْجَدَابِ

دعا سے بیچ سال قحط اور خشکی کے

وَأَيْلَ الْغَيْثِ وَالْمَطْرِ فَأَعْشَوْشَبَ

زور دار بارش اور مینہ پھر بری ہوئی اس سے

مِنْهُ الْفَقْرُ وَالصَّخْرُ وَالْوَعْرُ وَالسَّهْلُ

سوکھی اور پتھریلی اور سخت زمین اور نرم زمین

وَالرَّمْلُ وَالْحَجَرُ وَالْمَدَارُ وَأَسْرَيْتَ

اور ریگستان اور پتھر اور ڈھیلا اور لے گیا تو ان کو

بِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى

ایک رات مسجد کعبہ سے مسجد

السَّجِدِ الْأَقْصَىٰ إِلَى السَّمَوَاتِ الْعُلَىٰ

اقصى تک پھر بلند آسمانوں تک

إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ إِلَى قَابِ قَوْسَيْنِ

پھر سدرۃ المنتہی تک پھر اس مقام تک کہ فرق دو گوشہ

أَوْ أَدْنَىٰ وَرَأَيْتُمُ الْأَيَّةَ الْكُبْرَىٰ وَانْتَلَيْتُمُ

گمان کا یا اس سے کم تھا اور دکھائی تو نے ان کو نشانی بڑی اور پہنچا یا تو

الْغَايَةَ الْقُصْوَىٰ وَكَرَّمْتُمُ بِالْبَحَاظَةِ

نے ان کو نہایت مرتبہ اعلیٰ کو اور بزرگی دی تو نے ان کو ساتھ باتیں کرنے کے

وَالْمُرَاقِبَةَ وَالْمُشَافَهَةَ وَالْمُشَاهَدَةَ

اور لگھبانی کے اور رو برد ہونے کے اور حضور میں جانے کے

وَالْبُعَايَةَ بِالْبَصْرِ وَخَصَّصْتُمُ بِالْوَسِيلَةِ

اور دیکھنے کے بینائی سے اور خاص کیا تو ان کو ساتھ وسیلہ بزرگ

الْعُطَىٰ وَالشَّفَاعَةَ الْكُبْرَىٰ يَوْمَ الْفَزَعِ

کے اور سفارش بڑی کے دن خوف بڑے

الْأَكْبَرِ فِي الْحَشْرِ وَجَعَلْتُمُ لَهُ جَوَامِعَ

کے حشر میں اور جمع کیا تو نے واسطے ان کے معنی

الْكَلِمِ وَجَوَاهِرِ الْحِكْمِ وَجَعَلَتْ أُمَّتَهُ

خیر کلمات اور جواہر حکمتوں کے اور کیا تو نے ان کی امت

خَيْرَ الْأُمَمِ وَغَفَرْتَ لَهُ مَا نَعَدَمُ مِنْ

کو سب امتوں سے بہتر اور بخشا تو نے ان کی ہر لغزش کو جو ان سے ہو

ذَنِبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ الَّذِي بَلَغَ الرِّسَالَةَ

جکی ہو (کسی خاص نائن میں) اور جو (اس کے) بعد ہوئی ہو وہ کہ پہنچایا انہوں نے

وَأَدَّى الْأَمَانَةَ وَنَصَحَ الْأُمَّةَ وَكَشَفَ

احکام پیغمبری کو اور ادا کی امانت اور خیر خواہی کی امت کی اور دور کیا

الْغُمَّةَ وَجَلَّى الظُّلْمَةَ وَجَاهِدَ فِي

علم کو اور روشن کیا تاریکی کو اور کوشش کی اللہ کے راستہ میں

سَبِيلِ اللَّهِ وَعَبَدَ رَبَّهُ حَتَّىٰ أَنشَأَ

اور عبادت کی اپنے رب کی یہاں تک آپ کی وفات ہو

الْيَقِينِ اللَّهُمَّ اٰبَعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُودًا

گئی اے اللہ بھیج ان کو مقام محمود میں کہ

يُعْطَىٰ فِيهِ الْأُولُونَ وَالْآخِرُونَ

رشتہ کریں آپ پر اس میں پہلے اور پچھلے

اللَّهُمَّ عَظِّبْهُ فِي الدُّنْيَا بِأَعْلَى ذِكْرِهِ

اے اللہ بڑائی دے اُن کو دنیا میں ساتھ بلند کرنے ذکر ان

وَإِظْهَارِ دِينِهِ وَأَبْقَاءِ شَرِيعَتِهِ وَفِي

کے اور ظاہر کرنے دین اُن کے اور باقی رکھنے شریعت ان کے

الْآخِرَةِ بِشَفَاعَتِهِ فِي أُمَّتِهِ وَأَجْرًا

کی اور آخرت میں ساتھ شفاعت ان کی کے آپ کی امت میں اور عطا فرما

أَجْرًا وَمَثُوبَةً وَأَبْدًا فَضْلًا لِلأَوَّلِينَ

اجر اور ثواب آپ کا اور ظاہر فضیلت آپ کی سب پہلوں اور

وَالْآخِرِينَ بِالْمَقَامِ الْمَحْمُودِ وَقَدِيدِهِ

پہلوں کے بیسے مقام محمود میں اور ساتھ مقدم کرنے

عَلَى كَافَّةِ الْمُقَرَّبِينَ بِالشَّهَادَةِ اللَّهُمَّ

ان کے اوپر تمام مقربوں حاضر بارگاہ کے اے اللہ

تَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ الْكُبْرَى وَارْفَعْ

قبول کر اللہ کی بڑی شفاعت کو اور اونچا کر

دَرَجَتَهُ الْعُلْيَا وَأَعْطِهِ سُؤْلَهُ فِي

ان کے بلند درجہ کو اور عطا کر ان کو ان کے مطالب

الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ كَمَا آتَيْتَ إِبْرَاهِيمَ وَ

دنیا اور آخرت میں جیسا کہ دیا تو نے ابراہیمؑ اور

مُوسَىٰ ۙ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْ أَكْرَمِ عِبَادِكَ

موسیٰ کو اے اللہ کر تو ان کو اپنے تمام بندوں میں سب سے

عَلَيْكَ شَرَفًا وَكَرَامَةً ۙ وَمِنْ أَرْفَعِهِمْ

بزرگ باعتبار بڑائی کے اور کرامت کے اور سب سے بلند اپنے

عِنْدَكَ دَرَجَةً ۙ وَأَعْظِمِهِمْ خَطَرًا ۙ

نزدیک باعتبار درجہ کے اور سب سے بڑا باعتبار قدر کے اور

أَمْكِنِهِمْ عِنْدَكَ شَفَاعَةً ۙ اللَّهُمَّ عَظِمْ

سب سے توانا نزدیک اپنے باعتبار شفاعت کے اے اللہ با عظمت

بِرْهَانَهُ وَأَقْبِلْ حُجَّتَهُ وَأَبْلِغْهُ مَا

کران کی دلیل کو اور ظاہر کر ان کی دلیل نبوت کو اور پہنچا ان کو ان کی آرزو

مَوْلَاهُ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ ۙ وَذُرِّيَّتِهِ ۙ اللَّهُمَّ

تک ان کے اہل بیت اور ان کی اولاد میں اے اللہ

اتَّبِعْهُ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ وَأُمَّتِهِ ۙ مَا قَرَّبَهُ

تو مجھے پہنچا تو ان کی اولاد سے اور امت ان کی سے وہ نعمت کہ

عَيْنُهُ وَأَجْرُهُ عَنَّا خَيْرٌ مَّا جَزَيْتَ بِهِ

روشن ہو اس سے آنکھ ان کی اور بدلے دے اُن کو ہم سے بہت اچھا اس سے

نَبِيًّا عَنِ امَّتِهِ وَأَجْرُ الْأَنْبِيَاءِ كُلِّهِمْ

اچھا اس سے کہ دیا تو نے کسی نبی کو اُن کی امت سے اور بدلہ دے تو سب نبیوں کو

خَيْرًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اچھا لے اللہ درود و سلام بھیج اُوپر سردار ہمارے محمدؐ

عَدَدَ مَا شَاهَدَاتُهُ الْأَبْصَارُ وَسَبْعَةٌ

کے بشمار اس کے کہ دیکھیں اس کو بینائیاں اور سنیں اس کو کان اور

الْأَذَانُ وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَنْ

درود اور سلام بھیج اُوپر ان کے کہ بشمار ان کے

صَلَّى عَلَيْهِ وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَنْ

درود بھیجیں اُن پر اور سلام درود بھیج اُوپر اُن کے بشمار اُن کے کہ

لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ كَمَا

درود بھیجیں ان پر اور درود و سلام بھیج اُوپر ان کے جیسے کہ

تُحِبُّ وَتَرْضَى أَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَصَلِّ

چاہے تو اور رضا جو تیری اس میں کہ درود بھیجا جاوے اُن پر



وَسَلِّمْ عَلَيْهِ كَمَا مَرَّتَانِ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ

اور درود و سلام بھیج او پر ان کے جیسا کہ حکم کیا تو نے کہ درود بھیجیں ہم او پر ان کے اور

وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ كَمَا يَتَّبِعِي أَنْ

درود اور سلام بھیج ان پر جیسا کہ سزاوار ہے یہ کہ درود بھیجا جاوے

يُصَلِّي عَلَيْهِ هَٰذَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ

ان پر اے اللہ درود اور سلام

وَعَلَىٰ آلِهِ عَدَدَ نِعْمَاتِ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَأَفْضَالِهِ

بھیج ان پر اور ان کی اولاد پر بشمار نعمتوں اللہ تعالیٰ کے اور فضائل

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ

اس کی کے اے اللہ درود اور سلام بھیج ان پر اور ان کی آل پر اور ان کے صحابہ

وَأَوْلَادِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلِهِ

پر اور ان کی اولاد پر اور ان کی بیٹیوں پر اور ان کی اولاد پر اور ان کے گھر والوں

بَيْتِهِ وَعَشِيرَتِهِ وَأَصْحَابِهِ وَ

پر اور ان کے رشتہ داروں پر اور قبیلہ والوں پر اور آپ کے سردار

إِخْتَانِهِ وَأَحْبَابِهِ وَأَتْبَاعِهِ وَأَنْشِيَاعِهِ

والوں پر اور دامادوں پر اور ان کے دوستوں پر اور ان کے پیروں پر اور ان کے

وَأَنْصَارِهِ خَزَنَةَ أَسْرَارِهِ وَمَعَادِينِ

گروہ اور ان کے مددگاروں پر جو نگہبان ہیں ان کے بھیدوں کے اور کانیں ہیں ان

أَنْوَارِهِ وَكُنُوزِ الْحَقَائِقِ وَهُدَاةِ الْخَلَائِقِ

کے انوار کی خزانے حقیقتوں کے اور راہنما مخلوقات کے اور ستارے ہدایت کے وسط

وَنَجْوَمِ الْإِهْتِدَاءِ لِمَنْ أَقْدَى بِهِمْ وَسَلَامٌ

اس کے جواں کی پیروی کرے اور سلام بھیج

سَلَامٌ كَثِيرًا دَائِمًا أَبَدًا وَأَرْضَ عَن كُلِّ

بہت بہت سلام دائمی ہمیشہ اور راضی ہو تمام صحابہ سے

الصَّحَابَةِ رِضَى سَرْمَدًا أَعْدَادَ خَلْقِكَ

رضا مندی دائمی بشارت خلق اپنی کے

وَزِينَةَ عَرْشِكَ وَرِضَا نَفْسِكَ وَمِدَادَ

اور موافق وزن عرش اپنے کے اور خوشی ذات اپنی کے

كَلِمَاتِكَ كُلَّمَا ذَكَرَكَ ذَكَرُوا كُلَّمَا سَهَى

اور موافق انداز سیاہی کلمات اپنے کے جب تک کوئی ذکر کرنے والا آپ کا

عَنْ ذِكْرِكَ غَافِلٌ صَلَوَةٌ تَكُونُ لَكَ

ذکر کرے اور جب تک کوئی غافل آپ کا ذکر بھولے وہ درود جو سبب ہو آپ کی

رَضِيَ وَلِحَقِّهِ أَدَاءٌ وَلِنَا صِلَا حَاوَاتِهِ

رضامندی کا اور ان کے حق کی ادائیگی کا اور ہمارے لیے بھلائی کا اور

الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالذَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ

ان کو مقام وسیدہ کا اور فضیلت کا اور مرتبہ بلند و برتر اور عطا کر

الرَّفِيعَةَ وَابْعَثَهُ الْبَقَامَ الْبَحْرُودِ وَاللُّوَاءِ

ان کو مقام محمود اور نشان بستر

الْبَعْفُودِ وَالْحَوْضِ الْبُورُودِ وَصَلِّ

اور حوض کوثر وارد ہوگی امت اس پر اور رحمت بھیج

يَا رَبِّ عَلَى جَمِيعِ إِخْوَانِهِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ

اے اللہ اوپر سب بھائیوں ان کے نبیوں

وَالْمُرْسَلِينَ وَالْأَوْلِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ

اور پیغمبروں اور ولیوں اور نیکوں

وَالشَّهَدَاءِ وَالصِّدِّيقِينَ وَمَلَائِكَتِكَ

اور شہیدوں اور صدیقوں اور اپنے ملائکہ

الْمُقَرَّبِينَ وَعَلَى سَيِّدِنَا الشَّيْخِ مُحَمَّدٍ

مقربین میں سے اور اوپر ہمارے سردار شیخ محمد الدین

الدِّينِ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ الْقَادِرِ الْبَكِينِ

ابو محمد عبد القادر جیلانی کے جو صاحب

الْأَمِينِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ

مرتبہ اور حال امانت ہیں رحمتیں اللہ کی ان سب پر

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ درود و سلام بھیج اوپر سردار ہمارے محمد کے

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ السَّابِقِ لِالْخَلْقِ

اور اوپر اولاد سردار ہمارے محمد کے کہ پہلے سب خلقت سے

نُورُهُ الرَّحْمَةِ لِلْعَالَمِينَ ظُهُورُهُ عَدَدُ مَا

نور ان کا رحمت ہے واسطے جہانوں کے ظہور ان کا موازنہ عدو کے

مَضَىٰ مِنْ خَلْقِكَ وَمَا بَقِيَ وَمَنْ

اس مخلوق کے جو گزر چکی اور جو باقی ہے اور جو نیک بخت

سَعِدَ مِنْهُمْ وَمَنْ شَقِيَ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ

ہیں ان میں سے اور جو بد بخت ہیں ایسی رحمت جو شمار سے باہر ہو

الْعَدَاوَةِ وَتَحِيَّطٍ بِالْحَدِّ صَلَوَاتُ اللَّهِ لِأَغَايَةِ لَهَا

اور متجاوز ہو حد سے وہ رحمت کہ نہ حد اس کی اور

وَلَا اِنْتِهَاءَ وَلَا اَمَدًا لَهَا وَلَا اَنْقِضَاءَ

نہ نہایت اور نہ اندازہ اس کا اور نہ تمامی اس کی

صَلَوَاتِكَ الَّتِي صَلَّيْتَ عَلَيْهِ صَلَوَةٌ

وہ درود اپنا کہ بھیجا کرنے اوپر ان کے ایسا درود کہ پیش

مَعْرُوضَةٌ عَلَيْهِ مَقْبُولَةٌ لَدَيْهِ

کیا گیا اوپر ان کے قبول کیا گیا نزدیک ان کے

مَحْبُوبَةٌ اِلَيْهِ صَلَوَةٌ دَائِمَةٌ بِدَوَامِكَ

محبوب اُن کو درود ہمیشہ رہنے والا ساتھ ہمیشگی تیری

بَاقِيَةٌ بِبَقَائِكَ لَا تُنْتَهَى لَهَا دُونَ

باقی ساتھ بقا تیری کے نہ انتہا اس کی ہو بجز علم تیرے کے ایسا

عَلَيْكَ صَلَوَةٌ تُرَضِّيكَ وَتُرَضِّيهَا وَ

درود کہ خوش کرے تجھ کو اور پسند کرے تو اس کو

تُرَضِّى بِهَا اِنَّ صَلَوَةَ تَبْلُغُ الْاَرْضَ

اور خوش ہو تو بسبب اس کے ہم سے ایسا درود کہ بھرے زمین اور

وَالسَّمَاءَ مَقَامِ سَجْدَةٍ اَوَّلِ صَلَوَةٍ تُسْتَجِيبُ

آسمان کو (تو ہناتک سجدہ میں پڑھو) ایسا درود کہ قبول کرے تو بسبب

بِهَادِعَاءِنَا وَتُرْكِي بِهَا نَفُوسَنَا وَحَيِّ

اس کے دعا ہماری اور پاک کرے تو بسبب اس کے ہماری جانیں اور زندہ کرے

بِهَاقْلُوبِنَا وَتَحِلِّ بِهَا الْعُقَدَ وَتَفْرِجِ رِبَهَا

بسبب اس کے ہمارے دل اور کھولے بسبب اس کے گڑھیں اور دور کرے تو اس

الْكَرْبِ مَقَامِ سَجْدِهِ دَوْمٍ وَيَجْرِي بِهَا لَطْفُكَ

سے سختیوں کو اور جاری ہو بسبب اس کے مہربانی تیری

فِي أَمْرِي وَأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ مَقَامِ سَجْدِهِ

میرے کام میں اور کاموں میں مسلمانوں کے

سَوْمٍ وَيَبَارِكْ لَنَا عَلَى الدَّوَامِ وَعَافِنَا وَ

اور برکت دے تو ہمیں اوپر ہمیشگی کے اور بچا تو ہمیں اور

اهْدِنَا وَأَمْدُدْنَا وَاجْعَلْنَا آمِنِينَ وَ

اور راہ بتا ہم کو اور مدد دے ہم کو اور کر ہم کو بے خوف اور

يَسِّرْ لَنَا أُمُورَنَا مَعَ الرَّاحَةِ لِقُلُوبِنَا وَ

آسان کر دے ہمارے لیے ہمارے کام ساتھ آرام کے واسطے دلوں ہمارے کے اور

أَبْدَانِنَا وَالسَّلَامَةَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِنَا

بدنوں ہمارے کے اور ساتھ سلامتی اور عافیت کے ہمارے دین

وَدُنْيَانَا وَاٰخِرَتِنَا وَتَوْفِنَا عَلٰى الْكِتَابِ

اور ہماری دنیا اور ہماری آخرت میں اور وفات دے ہم کو اور قرآن

وَالسُّنَّةِ وَاَجْمَعًا مَعَهُ فِي الْجَنَّةِ مِنْ

اور طریقہ پیغمبر کے اور جمع کر ہمیں ان کے ساتھ جنت میں بغیر عذاب کے کہ

غَيْرِ عَذَابٍ يُسَبِّقُ بِنَا وَاَنْتَ رَاضٍ

و دخول جنت سے پہلے ہو درال حالیکہ تو خوش ہو ہم سے نہ

عَمَّا غَيْرِ عَضْبَانَ وَلَا تَسْكُرُ بِنَا وَاخْتِمِ

ناراض اور نہ آزمانا ہمیں اور خاتمہ کر

لِنَا مِنْكَ بِخَيْرٍ وَعَافِيَةٍ بِلَا مِحْنَةٍ

ہمارا اپنی طرف ساتھ بہتری اور عافیت کے بغیر محنت

اجْبِعِ عَيْنِي سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ

کے سب کا پاکی سے یاد کرتا ہوں پروردگار کو پروردگار بزرگی کا اس سے جو

عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ

بیان کرتے ہیں مشرک اور سلامتی اور پیغمبروں کے

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

اور سب تعریف اللہ کو جو پالنے والے جہانوں کا ہے

# فضائل درود شریف

## صد ہزار

اس درود شریف کی خاصیتیں اور فضیلتیں تو بے شمار ہیں جن کو مفصل اور شرح لکھنے سے کتاب کی ایک جزو بن سکتی ہے۔ لیکن یہاں مشت نمونہ از خردار کے لحاظ سے صرف چند خاصیتوں پر ہی کفایت کی ہے یہ درود شریف جس میں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابرکت نام مندرج اور شامل ہیں اپنی فضیلت پر آپ ہی شاہد ہے۔ اگر کوئی شخص اس درود شریف کو باعتماد و راسخ اور حضور قلب با طہارت کاملہ ہر روز پڑھے تو انشاء اللہ دین و دنیا میں اس کے ثمرہ سے بہرہ ور ہوگا۔ اور جس عقدرہ مالا نیچل کے واسطے پڑھا جاوے تو وہ عقدرہ بوجہ احسن حل ہوگا۔ غرض کہ کوئی مشکل سے مشکل غرض یا حاجات کی واسطے کیوں نہ پڑھا جائے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و برکت سے ضرور کامیاب کرے گا۔ اگر ہر روز



نہ پڑھ سکے تو ہفتے میں ایک دفعہ پڑھے اور اگر ہفتہ میں بھی نہیں  
 پڑھ سکتا تو مہینے میں ہی ایک دفعہ پڑھ کر سرمایہ آخرت بنائے  
 اور اگر کم فرصتی اور مشاغل دنیوی میں مصروف رہنے کے سبب  
 مہینے میں ایک دفعہ پڑھنے سے بھی مجبور ہو تو سال میں ضرور ہی ایک  
 دفعہ پڑھ کر آفات دنیا اور عذاب آخری سے نجات پائے ورنہ  
 تمام عمر میں تو ضرور ایک بار پڑھے۔ اس کے پڑھنے سے آپ کی  
 روزمرہ کی زندگی گزارنے میں بابرکت اور عزت میں اضافہ ہوگا۔  
 اور کسی مشکلات حل ہوں گی۔ رزق میں اضافہ ہوگا۔ قرضہ اتر  
 جائے گا۔ پریشانیوں سے نجات ہوگی۔



# دُرُودِ صَدِّقِ نَزَارِي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۞

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِ الرُّسُلِ

وَخَيْرِ أَوْلِي الْعِزْمِ وَعَلَى النَّبِيِّينَ

وَالْمُرْسَلِينَ وَالْبَلَّغَةَ وَعَلَى آلِهِ

وَأَصْحَابِهِ وَالصَّادِقِينَ وَ

الشُّهَدَاءِ وَالْعُلَمَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ وَ

الْغُرَبَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَعَلَى كُلِّ

الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ إِلَى يَوْمِ

الْقِيَامَةِ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ وَالْحَيَّاتِ

مِنَ الْأَنْسِ وَالْجِنِّ صَلَوَةٌ مَعْطَرَةٌ

دَائِمَاتٌ نَزَلَاتٌ عَلَيْهِ بِأَعْدَادِ

مَخْلُوقَاتِكَ تَكُونُ كُلِّ وَاحِدَةٍ

مِنْهَا مِلاً الْعَالَمِ مَعَ بَرَكَاتِ

لِأَرْمَاتِ مُطِيبَاتِ بِكَافُورِ

رِضْوَانِكَ وَتَحِيَّاتِ نَزَاكِيَاتِ

مُضَعَفَاتِ مَعْجُونَاتِ بَعْبُرِ

فَضْلِكَ وَتَسْلِيَاتِ مَسَلَاتِ

مَزُوجَاتِ بِسْكَ كَرَمِكَ وَرَحْمَةِ

فَإِحْسَانِي فِي الْعَالَمِ تَكُونُ مَنظَرًا

لِسُكَّانِ الْفِرْدَوْسِ وَعَرْشِ

عَظِيمِكَ فِي كُلِّ لَحْظَةٍ وَلِحْظَةٍ

أَبَدًا مَعَهُمْ أَجْمَعِينَ أَعْنَى النَّبِيِّ

الْأَمِيِّ الَّذِي عَلَيْهِ الْقُرْآنُ وَعِلْمُهُ

الرَّحْمَانِ بِهَذَا الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

مَخْصُوصٌ بِالْخَلْقِ الْعَظِيمِ

مَوْصُوفٍ وَإِسْمُهُ مُحَمَّدًا وَاحِدًا

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُمْ

أَضْعَافًا اسْتَغْفِرُ اللَّهُ الرَّحْمَنَ

الرَّحِيمَ وَالْبَيْتَ الْقُدُّوسَ

سُبْحَانَ عَدَدِ خَلْقِهِ جَلَّ جَلَالُهُ

وَحَامِدًا وَمَحْبُودًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ مَعَهُمْ أَضْعَافًا اسْتَغْفِرُ

اللَّهُ السَّلَامَ مِنَ الْيَوْمِ مِنَ الْبُهْمَيْنِ

وَالْعَزِيمِ الْجَبَّارِ الشَّكِيرِ سُبْحَانَ

عَدَدَ خَلْقِهِ جَلَّ جَلَالُهُ وَجَبَّتِي

وَمُصْطَفَىٰ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مَعَهُمْ أَضْعَافًا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْخَالِقَ

الْبَارِي الْمَصُورَ الْعَفَّارَ الْقَهَّارَ سُبْحَانَ

عَدَدَ خَلْقِهِ جَلَّ جَلَالُهُ وَصَاحِبَ

السَّيْفِ وَصَاحِبِ الْوَسِيلَةِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُمْ أَضْعَافًا

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْوَهَّابَ الرَّزَّاقَ

الْفَتْاحَ الْعَلِيمَ سُبْحَانَ عَدَدِ

خَلْقِهِ جَلَّ جَلَالُهُ وَصَاحِبِ الْمِعْرَاجِ

وَصَاحِبِ الْوَأْدِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ مَعَهُمْ أَضْعَافًا اسْتَغْفِرُ

اللَّهُ الْقَائِمُ الْبَاسِطُ الْخَافِضُ

الرَّافِعُ سُبْحَانَهُ عَدَدَ خَلْقِهِ جَلَّ

جَلَالُهُ وَفَصِيحٌ وَشَفِيقٌ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُمْ أَضْعَافًا

اسْتَغْفِرُ اللَّهُ الْبَعِزُّ الْبِيدَلُ وَالسَّبِيعُ

الْبَصِيرُ سُبْحَانَهُ عَدَدَ خَلْقِهِ جَلَّ

جَلَالُهُ وَمُطَهَّرٌ وَمُطِيبٌ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُمْ أَضْعَافًا

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْحَكَمَ الْعَدْلَ اللَّطِيفَ

الْخَيْرِ سُبْحَانَ عَدَدِ خَلْقِهِ جَلَّ

جَلَالُهُ وَحَبِيبُ اللَّهِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُمْ

أَضْعَافًا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْحَلِيمَ

الْعَظِيمَ الْغَفُورَ الشُّكُورَ سُبْحَانَ

عَدَدِ خَلْقِهِ جَلَّ جَلَالُهُ وَخَاتِمُ



النَّبِيِّينَ وَقَائِدِ الْغُرِّ الْمَحْجَلِينَ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُمْ

أَضْعَافَهَا اسْتَغْفِرُ اللَّهُ الْعَلِيَّ الْكَبِيرَ

الْحَفِيظَ الْبَقِيَّةَ سُبْحَانَهُ عَدَدَ

خَلْقِهِ جَلَّ جَلَالُهُ وَذُو قُوَّةٍ وَدُو

حُرْمَةٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُمْ

أَضْعَافَهَا اسْتَغْفِرُ اللَّهُ الْحَسِيْبَ الْكَلِيْلَ

الْكَرِيْمَ الرَّقِيْبَ الْبَجِيْبَ سُبْحَانَهُ

عَدَدَ خَلْقِهِ جَلَّ جَلَالُهُ وَذُو عِرْوَةٍ

ذُو فَضْلٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مَعَهُمْ اَضْعَافُهَا اسْتَغْفِرُ اللهُ

الْوَاسِعَ الْحَكِيمَ الْوَدُودَ الْبَجِيدَ

سُبْحَانَ عَدَدِ خَلْقِهِ جَلَّ جَلَالُهُ

وَرَسُولَ الْمَلَأِ حِمِّ وَرَسُولَ الرَّحْمَةِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُمْ

اَضْعَافُهَا اسْتَغْفِرُ اللهُ الْبَاعِثَ

الشَّهِيدَ الْحَقَّ الْوَكِيلَ سُبْحَانَ عَدَدِ

خَلْقِهِ جَلَّ جَلَالُهُ وَنِعَتُ اللهُ

صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُمْ

أَضْعَافَهَا اسْتَغْفِرُ اللَّهُ الْقَوِيَّ

الْبَيْتَيْنِ الْوَلِيِّ الْحَيِّدِ سُبْحَانَهُ عَدَدُ

خَلْقِهِ جَلَّ جَلَالُهُ وَمَدَائِرِ وَمَرِئِ

صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُمْ

أَضْعَافَهَا اسْتَغْفِرُ اللَّهُ الْبَحِيصِ

الْبَيْدِيِّ الْبَعِيدِ الْمَجِيِّ الْبَيْتِ

سُبْحَانَهُ عَدَدُ خَلْقِهِ جَلَّ جَلَالُهُ

وَعَبْدُ اللَّهِ وَكَلِيمُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُمْ أَرْضَاعَهَا

اسْتَغْفِرِ اللَّهُ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَالْوَّاحِدُ

الْبَاقِ سُبْحَانَ عَدَدِ خَلْقِهِ جَلُّ

جَلَالُهُ وَمُصْحِحُ الْحَسَنَاتِ وَ

مُقِيلُ الْعَثَرَاتِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ مَعَهُمْ أَرْضَاعَهَا اسْتَغْفِرِ

اللَّهُ الْوَّاحِدَ الْأَحَدَ الصَّمَدَ الْقَادِرَ

الْبَعْدِ سُبْحَانَ عَدَدِ خَلْقِهِ جَلُّ

جَلَالُهُ تَشْفِيعُ وَمَشْفَعُ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُمْ اَضْعَافَهَا

اَسْتَغْفِرُ اللهَ الْمَقْدِمَ الْبَوَّحِرَ

الْاَوَّلَ الْاٰخِرَ سُبْحَانَ عَدَدِ خَلْقِهِ

جَلَّ جَلَالُهُ وَصَادِقُ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُمْ اَضْعَافَهَا

اَسْتَغْفِرُ اللهَ الظَّاهِرِ الْبَاطِنِ الْوَالِي

الْبِعَالِي سُبْحَانَ عَدَدِ خَلْقِهِ جَلَّ

جَلَالُهُ وَسَيِّدِ الْبُرْسِلِيِّنَ وَاِمَامِ

الْبَيْتِيِّنَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مَعَهُمْ أَضْعَافًا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْبَرَّ

التَّوَابَ النَّبِيَّ السُّبْحَانَ

عَدَدَ خَلْقِهِ جَلَّ جَلَالُهُ وَحَرِيصٌ

عَلَيْكُمْ وَرَأُوفٌ وَرَحِيمٌ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُمْ أَضْعَافًا

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَفْوَ الرَّؤُوفَ وَ

مَالِكَ الْمُلْكِ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

سُبْحَانَ عَدَدِ خَلْقِهِ جَلَّ جَلَالُهُ

وَشَهِيدٌ وَمَشْهُودٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ مَعَهُمْ أَضْعَافَهَا اسْتَغْفِرُ

اللَّهُ الرَّبَّ الْمُقْسِطَ الْجَامِعَ الْغَنَى

سُبْحَانَ عَدَدِ خَلْقِهِ جَلَّ جَلَالُهُ

وَبَشِيرٍ وَنَذِيرٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ مَعَهُمْ أَضْعَافَهَا اسْتَغْفِرُ

اللَّهُ الْمَانِعَ الضَّارَّ النَّافِعَ النُّورَ

الْهَادِيَ سُبْحَانَ عَدَدِ خَلْقِهِ جَلَّ

جَلَالُهُ وَنَاصِرٍ وَمَنْصُورٍ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُمْ أَضْعَافَهَا

اسْتَغْفِرُ اللَّهُ الْبَدِيعَ الْبَاقِي

الْوَارِثَ الرَّشِيدَ سُبْحَانَ عَدَدِ

خَلْقِهِ جَلَّ جَلَالُهُ وَرَقِيبٌ وَمُنِجِلٌ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُمْ

أَضَعَفَهَا اسْتَغْفِرُ اللَّهُ الصَّبُورَ

السَّارِحَانَ الْمَنَّانَ الدِّيَانَ

سُبْحَانَ عَدَدِ خَلْقِهِ جَلَّ جَلَالُهُ

وَنُورٌ وَمِنْ يَرْصَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مَعَهُمْ أَضَعَفَهَا اسْتَغْفِرُ اللَّهُ



الْمُعْطَى الْغُيُورِ السُّبُوحِ الْقَدِيمِ

الْقَدِيرِ سُبْحَانَ عَدَدِ خَلْقِهِ جَلَّ

جَلَالُهُ وَسِرَاجِ وَسَائِقِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُمْ أَضْعَافًا اسْتَغْفِرُ

اللَّهُ الْكَافِيَ الْوَافِيَ الشَّافِيَ وَغَافِرَ

الذَّنْبِ قَائِلَ التَّوْبِ سُبْحَانَ

عَدَدِ خَلْقِهِ جَلَّ جَلَالُهُ وَإِمِينُ

وَمُطِيعُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُمْ

أَضْعَافًا اسْتَغْفِرُ اللَّهُ شَدِيدُ

الْعَقَابِ ذِي الطُّوْلِ وَهَاتِرِ مِ

الْأَحْزَابِ سَرِيعِ الْحِسَابِ سُبْحَانَ

عَدَدِ خَلْقِهِ جَلَّ جَلَالُهُ وَرَحْمَتُهُ

لِلْعَالَمِينَ وَعِلْمِ الْهُدَى صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُمْ أَضْعَافًا أُسْتَعْمَرُ

اللَّهُ الْكَبِيرَ الْأَعْزَّ الْأَعْظَمَ الْأَجَلَّ

سُبْحَانَ عَدَدِ خَلْقِهِ جَلَّ جَلَالُهُ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ

أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْأَحَدُ

الصَّحْدُ الَّذِي لَمْ يَدَّ وَلَمْ يُولَدْ

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ اللَّهُمَّ إِنِّي

أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحُدُودَ وَحَدَّكَ لَا

شَرِيكَ لَكَ الْحَنَّانُ الْبَنَّانُ بَدِيعُ

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ

وَالْإِكْرَامِ يَا حَىُّ يَا قَيُّوْمُ وَاللَّهُمَّ

إِلَهَ وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ

الرَّحِيمُ ۝ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ ۝ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ

إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ۝ كَمِيعَص

حَمَسَق ۝ حَم ۝ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ

مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۝ غَافِرِ

الدُّنُوبِ وَقَائِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ

العِقَابِ ذِي الطُّولِ لَآ إِلَهَ إِلَّا

هُوَ إِلَيْهِ البَصِيرَةُ اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ

الْأَعْظَمِ وَبِاسْمَائِكَ الْحُسْنَى وَ

صِفَاتِكَ الْكُبْرَى وَكُنُوتِكَ الْعَظْمَى

وَحُفَّتِكَ الْعَلِيَّاءِ وَنَعْوَتِ نَبِيِّكَ

الْبُصْطَفَىٰ وَشَيْئَلِ رَسُولِكَ الْبُجْبِي

اجْعَلْ هَذِهِ السِّيَّحَاتِ وَالصَّلَوَاتِ

وَالِاسْتَعْفَارَاتِ مَفْرِحَاتٍ لِقُلُوبِنَا

مَا نَعَاتِ لِبُهْلِكَائِنَا بِاعِثَاتِ

لِبُنْجِيَاتِنَا مَا حِيَاتِ لِدُنُوبِنَا مُكْفِرَاتِ

لِسِيَّيَاتِنَا سَاتِرَاتِ لِعِيُوبِنَا مُصَاعِفَاتِ

لِحَسَنَاتِنَا نَاصِرَاتِ عَلَىٰ اَعْدَائِنَا

وَفَاتِحَاتِ لِبِهَائِنَا فِي الدَّارَيْنِ

وَمُبْرَعَاتِ لِقُبُورِنَا وَقَائِدَاتِ اِلَى

جَنَاتِنَا وَبِلِقَائِكَ مَرَاغِبَاتٍ

لِدَارِ جَنَاتِنَا بَغَيْرِ حِسَابٍ وَعَذَابٍ

وَعَذَابٍ يُبَغُّفِرُكَ وَمَرَاغِبَاتٍ وَ

فَضْلِكَ وَكَرَمِكَ وَعُفْرَانِكَ وَ

رِضْوَانِكَ أَنْتَ حَسْبِي وَنِعْمَ

الْوَكِيلُ نِعْمَ الْبَوَالِغُ وَنِعْمَ

النَّصِيرُ ۝

# اَسَادِ اسْمَاءِ اعْظَمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حضرت شیخ بہاؤ الدین خاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ سال ہا سال تک بیچ طلب کرنے اسم اعظم کے رہا تھا۔ میں ہر کتاب سے اور ہر شیخ اور عالم سے ڈھونڈتا تھا تاہم نہیں ہوتا تھا۔ دوسرے کوئی کتاب نہ رہی کہ میں نے مطالعہ نہ کی۔ نہ پایا میں نے۔ یہاں تک کہ خدمت ہر مذہب کے اکابر علماء کی میں نے۔ اور ان کی کتابوں کا مطالعہ کیا میں نے نہ پایا میں نے۔ پس خیال کیا میں نے۔ کہ شاید ریاضت سے حاصل ہووے۔ بنا ریاضت پر چھوڑی میں نے۔ کم کھانے کی عادت کی میں نے۔ اور راتوں کو نماز میں اور عبادت میں تمام بے گیا تھا۔ اور بھوک کھنچی میں نے۔ اور اعضاء میرے کمزور ہو گئے۔ کسی جگہ سے بولے اسم اعظم کی میرے دماغ میں نہ پہنچی۔ پس تسبیح ستاروں اور فرشتوں و جنوں کی میں نے۔ کسی طرح

سے حاصل نہ ہوا۔ آخر بیزار ہوا میں۔ کہا میں نے کہ اسم اعظم اگر بعد اس کے حاصل ہووے نہ چاہوں گا۔ اور تمام دنیا اور مافیہا سے بیزار ہوا میں۔ اور نا امید ہوا میں کہا میں نے بعد اس کے دن کو جو کچھ ہووے کھاؤنگا میں۔ اور راتوں کو سوؤنگا میں۔ اس رات کو دن میں لایا میں یعنی بہت سویا۔ روزہ بہت کھایا میں نے اور قرآن پاک پڑھنے سے میں غافل ہوا۔ پھر خواب میں گیا میں۔ ہوا مشکبوسے کی میرے دماغ میں نیچی نظر کی میں نے کہ اشرف کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ٹہلتے ہوئے آتے ہیں۔ اور ستر پوشا کیں نور سے پہنے ہوئے منہ مبارک طرف بندہ عاجز کے کیا اور مجھ کو بغل میں پکڑا۔ اور سر اور منہ میرے کو بوسہ دیا۔ اور نوازش اور وعدہ بہت فرمایا۔ اور مجھ کو ساتھ فرزندگی کے نسبت دی۔ اور اس بندہ کی تعریف کرتے تھے۔ اور زبان مبارک سے فرماتے تھے کہ کیا حاجت رکھتا ہے تو حاجت اپنی کو خدا سے مانگتا میں آمین کروں کہا میں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسم اعظم کو چاہتا ہوں میں۔ پس کہا میں نے خداوند پروردگار اب حق حقا نیت اپنی اور بھرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حاجت میری نکالے۔ تو خیر کر اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمین کہتے تھے۔ اچانک سینہ میرا گرم ہوا۔ اور دل میرا تڑپنے لگا۔ اور زبان میری میٹھی ہو گئی اور دماغ معطر ہو گیا۔ اور آنکھیں میری روشن ہوئیں۔ ایسا کہ درمیان میرے اور پروردگار کے کوئی پردہ نہ رہا۔ اور آواز آتی تھی اور اسم اعظم کی تلقین کرتے تھے۔



اور مدت تیس سال کی ہوئی۔ اور طلب کرتا تھا میں۔ نہیں پاتا تھا میں۔ اور اللہ کے فضل سے اسی رات دن میل ہوا۔ پس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ لکھ۔ اور بیان فرماتے تھے۔ اور میں لکھتا تھا۔ اور جب بیدار ہوا میں اسم میری یاد میں تھے۔ اور نور کا کاغذ میرے ہاتھ میں تھا ظاہراً۔ اور وہ اسم اس پر لکھے ہوئے تھے۔ پس واسطے ہر مطلب کے جو پڑھتا تھا مقبول ہوتا تھا۔ پس ساتھ عزت تمام کے ان کو نگاہ رکھتا تھا میں۔ اور لوگوں سے پوشیدہ رکھتا تھا۔ شرح اس اسم اعظم کی بے حد بے شمار ہے۔ لیکن اس جگہ مختصر کیا گیا۔ تاکہ پڑھنے والے اور لکھنے والے کو ملال نہ ہووے۔ دس آیتیں جو کاغذ میں شیخ مذکور کے ہاتھ میں غیب سے لکھی ہوئی تھیں۔ یہ ہیں۔



اسم اعظم اول

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ بِاَنِّیْ اَشْهَدُ اَنَّكَ

اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَحَدُ

الصَّحْدُ الَّذِیْ لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُوَلَدْ

وَلَمْ یَكُنْ لَهٗ کُفُوًا اَحَدٌ ۝

اسم اعظم دوم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاللهِ الْوَاحِدِ

الطَّهِمِ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝ أَنْتَ

تَعْفِرُ لِي ذُنُوبِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ

الرَّحِيمُ ۝

بِسْمِ الْعَظِيمِ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَدُّ

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْحَنَّانُ الْمُنِيبُ ۝

يَا بَدِيعَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا

ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ

أَسْأَلُكَ أَنْ تَقْضِيَ حَاجَتِي بِرَحْمَتِكَ

يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ○

سَمِ اعْظَمِ چھارم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

يَا كَهْيَعَص ○ يَا حَمْدُ عَسَق

طَهْ وَيَسْ يَا مُلِكَ يَوْمِ الدِّينِ ○

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ○ إِلَّا

إِلَى اللَّهِ تَصِيرَ الْأُمُورُ ۝

سَمِ اعْظَمِ بِحَمْدِهِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الْأَعْلَى

الْأَعْلَى الْأَعْلَى ۝ الْأَعِزُّ الْأَعِزُّ

الْأَعِزُّ ۝ الْأَكْرَمُ الْأَكْرَمُ الْأَكْرَمُ ۝

الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْأَجَلُ الْأَجَلُ

الْأَجَلُ الْعَظِيمُ ۝ الْعَظِيمُ الْعَظِيمُ

الْأَعْلَمُ الْكَبِيرُ الْكَبِيرُ ۝ الَّذِي

مَنْ دَعَاكَ بِهِ أَجَبْتَهُ ۝ وَمَنْ

سَأَلَكَ بِهِ أَعْطَيْتَهُ اللَّهُمَّ ارِنِي

أَسْأَلُكَ بِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ وَأَسْأَلُكَ

بِرَحْمَتِكَ عَلَىٰ جَمِيعِ خَلْقِكَ وَ

أَسْأَلُكَ بِفَضْلِكَ أَنْ تَقْضِيَ

حَاجَتِي وَاللَّهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

تَصِفُونَ ۝

اسم اعظم  
عظيم ششم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

وَالْهَكْمُ إِلَهُ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

عظم  
مفتم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ

وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ يَا

أَحْيَى يَا قَيُّومُ يَا إِلَهَ الْأُولِينَ

وَالْآخِرِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

اسم اعظم ہشتم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

فَسِیْکَفِیْکُمْ اللّٰهُ وَهُوَ السَّیِّعُ

الْعَلِیْمُ ۝ سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ

رَّحِیْمٍ ۝ یَا حَافِظُ ۝ یَا نَاصِرُ ۝

یَا مُعِیْنُ ۝ یَا صَرِیْحَ الْمُسْتَضْرِیْنِ ۝

یَا دَلِیْلَ الْتَّحِیْرِیْنِ ۝ یَا مُفْرِجَ

الْمُکْرُوْبِیْنِ ۝ یَا غِیَاثَ الْمُسْتَغِیْثِیْنِ ۝

اِعْتَنِیْ بِعِزَّتِكَ الْقَدِیْمِ ۝ اللّٰهُ



الْأَمْرِ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدِ وَيَوْمَئِذٍ

يُفْرِحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ

مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝

سَمِ اعْظَمُ مِنْهُمْ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

يَا اللَّهُ ۝ يَا رَحْمَنُ ۝ يَا رَحِيمُ ۝

يَا رَبَّ الْأَرْبَابِ ۝ يَا مُقَدِّمَ الْإِبْرَارِ ۝

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ۝

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى

وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ يَا عَلِيُّ يَا

عَظِيمُ ۝ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ

وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ ۝

سَمِ اعْظَمِ سَمِ اعْظَمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَدُّ

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْكَفَّارُ الْبَانُ يَا

بَدِيعَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ

وَالرَّكُومِ وَالْأَحَدِ الصَّعْدِ الَّذِي لَمْ يَدِدْ

وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝

يَا حَىُّ يَا قَيُّوْمُ ۝ فِي دِيَوْمِيَّةٍ مُلْكِهِ

وَبِقَائِهِ ۝ يَا حَىُّ مَجِى السُّوْتِ يَا حَىُّ ۝

يَا مُبِيتَ الْحَيَاءِ ۝ يَا وَارِثَ الْأَرْضِ

وَالسَّمَاءِ ۝ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ

الَّذِى لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ لَا

تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِى

السَّمَوَاتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ مِنْ ذَا

الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ

مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا

يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِنْدِهِ إِلَّا بِمَا

شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ

وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ

الْعَظِيمُ ۝ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ

الْأَعْظَمِ ۝ الْأَجَلِ الْأَكْرَمِ الْأَعَزِّ

الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَبْتَهُ ۝ وَ

إِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَيْتَهُ يَا نُورُ ۝

يَا مُدِيرَ الْأُمُورِ يَا عَالِمًا بِهَا فِي

الضُّدُورِ يَا رَقِيبٌ يَا مُجِيبٌ

يَا سَيِّعَ الدُّعَاءِ يَا لَطِيفًا بِهَا سَتْرٌ

يَا رُؤُوفٌ يَا عَطُوفٌ يَا حَلِيمٌ

يَا كَبِيرٌ يَا عَظِيمٌ يَا اللَّهُ يَا رَحْمَنٌ

يَا رَحِيمٌ يَا عَلِيمٌ يَا ذَا الْجَلَالِ

وَالْإِكْرَامِ يَا كَهَّيْعَصٌ يَا

حَمِيقٌ طه يس يا مَلِكِ يَوْمِ

الذِّينِ يَا كَتَعْبُدُ وَإِيَّاكَ

نَسْتَعِينُ ۝ اَلَا اِلٰى اللّٰهِ تَصِيْرُ

اَلْاُمُوْر ۝ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّحِيْمِيْنَ

وَصَلِّ اللّٰهُ عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ وَسَيِّدِ

رَسُوْلِهٖ مُحَمَّدٍ وَّآلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ

اَجْمَعِيْنَ وَسَلَامٌ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا

كَثِيْرًا ۝

# اسناد اور افتتاحیہ

خواص و فضائل اور فوائد



حضرت امیر کبیر سید علی ہمدانی قدس سرہ العزیز نے فرمایا ہے کہ میں نے اور افتتاحیہ شریفہ کو چار سو اولیاء سے جمع کیا ہے۔ اور بعد جمع کے متفکر ہوا کہ نام کیا رکھا جاوے۔ اسی اشار میں جب کہ مکہ معظمہ پہنچا تو سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خذْ هَذَا الْفَتْحِيَّةَ۔ یعنی لے لے اس فتیجہ کو۔ جب لے کر دیکھنے لگا تو مجموعہ نہ کو رہا۔ جب کہ مدینہ منورہ حاضر ہوا تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ جلوہ گر ہوئے اور اس کا نام اور افتتاحیہ آپ نے خود رکھا۔ بعد اس کے کشمیر میں جب پہنچا تو اس خطہ کے لوگوں کو بتلایا اور انھوں نے اس کو ہمیشہ ورد رکھا۔ اس لیے ان پر خدائے پاک جل شانہ نے فتوحات ظاہری و باطنی کھول دیئے۔

خستہ، حضرت شیخ عماد الدین شیخ فضل اللہ قدس سرہ

کہ ایک حلقائے خاندان کبرویہ سے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ بندہ ناچیز ایک دن حلقہ اوراد فتحیہ شریفہ میں اپنے مرشد علیہ الرحمۃ کے پاس حاضر تھا۔ ناگہاں اس دریائے عرفان سے گھبراہٹ کی آواز اور سمیت ناک حالت ظاہر ہوئی۔ جب اُس کا سبب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا۔ یہ اوراد فتحیہ شریفہ کے فتوحات ہیں۔ کہ ایک گروہ ملائکہ سے اوراد فتحیہ شریفہ کے کلمات پر معین ہیں اوراد فتحیہ شریفہ کے پڑھنے والوں کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اور اس کے فتوحات بطور امداد قاریوں کو پہنچتے ہیں۔

ختمہ۔ حضرت مخدوم شیخ حمزہ قدس سرہ دن رات میں دودھ اوراد فتحیہ شریفہ کو کمال ذوق و شوق کے ساتھ پڑھتے تھے۔ بعد فجر اور عشاء کے۔ اور بعض اوقات کئی جگہ میں ایک بڑی عجیب حالت کے ساتھ کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ اور فرماتے تھے چار سو اولیاء کبار کے ارواح طیبہ قدس اللہ اسراہم حاضر ہو کر پڑھنے میں میرے ساتھ متفق ہوتے ہیں۔ میں ان کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں۔

ختمہ۔ جناب سیادت پناہ حضرت امیر کبیر قدس سرہ جب کہ کشتیر سے چلے گئے تو اس خطہ کے رہنے والوں کے لیے فیوض حلقہ اوراد شریفہ چھوڑ گئے۔ اور وہ لوگ آواز بلند کے ساتھ پڑھتے تھے اور ذوق و شوق پاتے تھے۔ جبکہ سید احمد کرمانی قدس سرہ کشتیر میں



آئے۔ اور لوگوں کو دیکھا کہ آواز بلند کے ساتھ پڑھتے ہیں تو فرمایا کہ یہ بات خالی ریا سے نہیں اور لوگوں کو جہر کرنے سے روک دیا۔ تو خواہ مخواہ اکثر لوگوں نے پڑھنا چھوڑ دیا۔ پھر جب راستہ بارہ مولا سے کشمیر کو لوٹے۔ چند مدت کے بعد تو اپہاک مرگ واقعہ میں دیکھا کہ سیادت پناہ حضرت امیر کبیر قدس سرہ ہاتھ مبارک میں نیزہ پکڑا ہوا آئے ہیں اور وہ نیزہ آپ نے ان کو دے دیا۔ حضرت سید احمد گریانی قدس سرہ نے عرض کی یا حضرت مجھ سے کیا قصور ہو گیا ہے، آپ نے فرمایا کہ تو اعلیٰ کلمۃ اللہ سے کیوں مانع ہو گیا ہے بعدہ جب کشمیر میں پہنچے تو کوچہ کوچہ گردش کر کے لوگوں کو جہر پر بڑی رغبت دی۔ اور آپ بھی اوراد فتحیہ شریفہ کو بڑے جہر سے پڑھنے لگے۔

فتحہ، جناب سیادت پناہ حضرت امیر قدس سرہ اپنی کتاب اسرار میں فرماتے ہیں۔ جب کہ میں مدینہ منورہ پہنچا اور روبرو درویشہ مطہرہ ہو کر سلام عرض کیا تو جواب سلام حضور مبارک نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پایا۔ اسی اثناء میں مجھے ایک قسم کی بخوردی آگئی۔ اور دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گروہ صحابہ کرام کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ اور میں نے سلام عرض کیا آپ نے مجھے ہاں

بلا کر ایک بڑا مکتوب عطا فرمایا۔ جب میں نے اس کو کھولا تو وہی چار سو اولیاء اللہ کے کلمات تھے۔ بعد اس کے ترتیب نہیں جانتا تھا۔ جبکہ ترتیب معلوم ہو گئی۔ تو متفکر بنا کہ آیا جہراً پڑھنا چاہیے یا خفیہ۔ اسی اثناء میں دیکھتا ہوں کہ ایک گروہ گول حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑی عمدہ خوش آواز سے اسی اوراد شریف کو پڑھ رہے ہیں۔ بعد اس کے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ اسی طرح پڑھنا چاہیے۔ اور یہ اوراد میں نے اگرچہ ابتداءً چار سو اولیاء اللہ کا بلین کمبلین سے پائے ہیں۔ لیکن آخر دوبار مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلا واسطہ خود عطا فرما کر جہراً پڑھنے کا ارشاد فرمایا ہے اس وقت سے اس کا اونچا پڑھنا شروع ہے۔

فتحہ :- دوسری علامت مقبول ہونے اوراد شریف کی یہ ہے کہ حضرت سیادت پناہ امیر کبیر قدس سرہ فرماتے کہ جب میں سیر تمام روئے زمین آباد سے فارغ ہوا اور اپنے اصلی وطن بہمان میں پہنچا۔ ناگاہ ایک رات وقت سحر حضرت خضر علیہ السلام بندہ پر جلوہ گر ہوئے اور اوراد شریف میرے ہاتھ سے لیکر غائب ہو گئے جب لوٹے تو فرمایا کہ اے سید علی اس اوراد میں چند کلمات اور شامل کرنے مناسب

تھے تاکہ نہایت کمال کو پہنچ جائے۔ اس لیے میں نے ان کو اپنے خط سے لکھ دیا ہے اور نام اس کا عالم غیب سے اور اوفتیہ رکھا گیا ہے۔ آپ اپنے سریدوں اور معتقدوں کو کہو کہ اسی نام سے پکارا کریں۔ جبکہ حضرت خضر علیہ السلام غالب ہو گئے ہیں نے اور اوفتیہ کو کھول کر دیکھا تو چودہ جگہ میں وہ کلمات خط سبز کے ساتھ لکھی ہوئے پائے۔

ختمہ ۱۔ اور جانتا چاہیے کہ پڑھنا اور اوشرف کا جتنا ادب کے ساتھ ہو۔ اتنا ہی زیادہ مفید ہے۔ راقم حروف نے ایک دن پڑھنے کے وقت حفاظت ادب نہ کی۔ جناب سیادت پناہ حضرت امیر کبیر قدس سرہ جلو شہ ہوئے اور فرمایا کہ اور اوشرف کو بے ادبانہ مت پڑھو ہمارے دوستوں میں سے ایک کے دل میں آیا کہ ہر ورد کا اجابت دعا کے لیے ایک عدد مقرر ہے تو اور اوفتیہ کا کیا عدد ہے۔ حضرت سیادت پناہ قدس سرہ کو واقع میں دیکھا کہ فرماتے ہیں۔ کہ ہزار دفعہ مقبول ہونے دعا کے لیے میں نے آزمائی ہے۔ لیکن جو کوئی پورے ادب سے پڑھے گا۔ خدا تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ اور ضروری جانتا چاہیے کہ اور اوشرف پڑھنے کے لیے بارہ شرطیں ہیں۔ چھ داخل اور چھ خارج لیکن خارج یہ ہیں۔ کہ خوش آواز سے پڑھے۔

- ① معانی کو سمجھے ② کمال عاجزی سے پڑھے ③ گروہ پڑھنے والے کا حلقہ گول ہو۔ ④ اسمائے حسنیٰ کو سر جھبکا کر پڑھے ⑤ ہاتھ اٹھاتے وقت درود شریف کے ساتھ پڑھے چہرہ اور داخل یہ ہیں۔ ① پاکیزگی نفس کی۔ ② استغفار ساتھ کمال عجز کے ③ تسبیح و تحمید ④ تکبیر ⑤ تہلیل ⑥ تسبیحات الہی بنام امیر کبیر بہ بخشا، گناہ صغیر کبیر

## اسناد اور اذیت از حضرت شاہ ولی اللہ محدث

رحمۃ اللہ علیہم  
جناب زبیدہ مفسرین دقودہ محدثین حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیف کردہ کتاب انتباہ فی سلال اولیاء اللہ صفحہ ۱۲۵ میں لکھا ہے کہ یہ اوراد شریف ایک ہزار چار سو ولی اللہ کامل کی کلام کا مجموعہ ہے اور جو حضور قلب کے ساتھ اپنے اوپر لازم کرے اس کی برکت اور صفائی مشاہدہ کرے گا اور ایک ہزار چار سو ولی کی ولایت سے حصہ پاوے گا۔ حضرت امیر کبیر جامع اوراد فحیہ نے تین دفعہ تمام روئے زمین کا سیر کیا اور ۱۴۰۰ ولی کامل کی ملاقات سے مشرف ہوئے

اور رخصت کے وقت ہر ایک سے دعا اور رقعہ کی التماس کرتے تمام رقعے اور وہ ذکر جو ان کے دل سے بے اختیار جاری ہوتے تھے۔ ان کو اپنے جامہ پر مرقع کر لیتے تھے۔ اور آپ ہی سے منقول ہے کہ جب میں بارہویں دفعہ کعبہ شریف کی زیارت کو گیا۔ اور مسجد اقصیٰ میں پہنچا تو خواب میں دیکھا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرف تشریف لارہے ہیں میں بھی آگے بڑھا اور سلام کیا، آپ نے فرمایا خُذْ هَذَا الْفَتْحِيَّةَ (اس فتحیہ کو پکڑے) جب میں نے لیکر دیکھا۔ تو بعینہ وہی اوراؤ تھے۔ جو پہلے اولیاء کرام سے مجھے ملے تھے اس واسطے تبرکاً و تمیناً اس کا نام اوراؤ فتحیہ رکھا۔

محمد اسلم خورشیدی (منصوری والی)

أُرَادَ حَضْرَاتِ قَادِرِيهِ  
عَلَيْهِمُ الرِّحْمَةُ وَالنِّجْمَةُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ ○ تَبِين بَار

الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ

وَأَتُوبُ إِلَيْهِ وَأَسْأَلُهُ التَّوْبَةَ

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ

وَالْبَيْتُ يَرْجِعُ السَّلَامُ مَرْحَبًا بِنَا

بِالسَّلَامِ وَأَدْخِلْنَا دَامَ السَّلَامِ

تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ

وَالْإِكْرَامِ ۝ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا

يُورِثُنِي نِعَمَكَ وَيُكَفِّرُنِي مَزِيدَ كَرَمِكَ

أَحْمَدُكَ بِجَمِيعِ مَحَامِدِكَ مَا

عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ وَعَلَى

جَمِيعِ نِعَمِكَ مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا

لَمْ أَعْلَمْ وَعَلَى كُلِّ حَالٍ يَا مُجِيبَ

الْحَالِ حَوْلَ حَالِنَا إِلَى أَحْسَنِ

الْحَالِ بِحَقِّ أَفْضَلِ الْبَقَالِ ۝

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ الرَّحْمَنِ

الرَّحِيمِ ۝ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ۝

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا



الضَّالِّينَ ۝ اٰمِيْنَ ۝ وَاللّٰهُمَّ اِلٰهَ

وَاحِدٌ ۝ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ

الرَّحِيْمُ ۝ اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ

الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا

نَوْمٌ لَّهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى

الْاَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِى يَشْفَعُ عِنْدَهٗ

اِلَّا بِاِذْنِهٖ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيهِمْ

وَمَا خَلْفَهُمْ وَّلَا يُحِيطُوْنَ بِشَيْءٍ

مِّنْ عِنْدِهٖ اِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهٗ

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْأَشْيَاءِ حَقِّهَا

وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ۝

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

أَلَمْ ۝ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا

لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَةَ

وَالْإِنْجِيلَ مِنْ قَبْلُ هَدَى لِلنَّاسِ

وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقَدِيمُ

الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَنَحْنُ شُهَدَاؤُهُ

شَهِدَ اللَّهُ بِهِ وَنَسْتُوذِعُ اللَّهَ هَذِهِ

الشَّهَادَةَ وَهِيَ لَنَا عِنْدَ اللَّهِ وَدِيْعَةٌ

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ قُلْ

اللَّهُمَّ مَا لَكَ الْمَلِكُ تَوْتِي الْمَلِكُ

مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكَ مِمَّنْ

تَشَاءُ وَتَعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتَذِلُّ

مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى

كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ تُؤَلِّجُ الْمَاءَ فِي

النَّهَارِ وَتُؤَلِّجُ النُّجُومَ فِي اللَّيْلِ وَ

تُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ

الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ

تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝ اللَّهُمَّ ارِنَا

لِقَاءَكَ الْكَرِيمَ بِأَحْسَابٍ وَأَعْدَابٍ ۝

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ

إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ مِنْ كُلِّ كَبِيرٍ ۝

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى

النَّبِيِّ بِأَيِّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا

عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّ

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَحَبِيبِكَ وَنَبِيِّكَ

وَرَسُولِكَ النَّبِيِّ الْأَمِيِّ وَعَلَى آلِهِ

وَاصْحَابِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ عَلَيْهِمْ

رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِهِ

اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ ۝

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ

الْعَلِيمُ ۝ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ

عَمَّا يَصِفُونَ ۝ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ۝

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ اللَّهُمَّ

إِنَّا خَيْرُ الدُّنْيَا وَخَيْرُ الْآخِرَةِ ط

وَاصْرِفْ عَنَّا شَرَّ الدُّنْيَا وَشَرَّ يَوْمِ

الْآخِرَةِ يَا إِلَهَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ ۝ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ۝

(سببار)

أَوْرَادِ حَضْرَاتِ كِبْرِيَاةٍ  
عَلَيْهِمُ الرَّحْمَةُ وَالرَّحْمَةُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ ۝ سُبْحَانَ الَّذِي

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ

إِلَيْهِ وَأَسْأَلُهُ التَّوْبَةَ اللَّهُمَّ أَنْتَ

السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ وَإِلَيْكَ

يَرْجِعُ السَّلَامُ رَبَّنَا بِالسَّلَامِ

وَادْخُلْنَا دَارَ السَّلَامِ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا

وَتَعَالَيْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ۝

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا يُؤَافِي

نِعْمَكَ وَيُكَافِي مَزِيدَ كَرَمِكَ أَحْمَدُ

بِجَمِيعِ مَحَامِدِكَ مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَ

مَا لَمْ أَعْلَمْ وَعَلَى جَمِيعِ نِعْمِكَ مَا

عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ وَعَلَى

كُلِّ حَالٍ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ

الرَّجِيمِ ۝ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ



الْقِيَوْمِ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ

لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا

بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ

وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ

مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ

حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ

اللَّهُ أَكْبَرُ ۝ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ۝

وَحْدَهُ ۝ لَا شَرِيكَ لَهُ ۝ لَهُ الْمُلْكُ ۝

لَهُ الْحَمْدُ ۝ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

۝ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ۝ اللَّهُ الْمَلِكُ ۝ الْجَبَّارُ ۝

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ۝ الْوَاحِدُ ۝ الْقَهَّارُ ۝ لَا

إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ۝ الْعَزِيزُ ۝ الْغَفَّارُ ۝ لَا

إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ۝ الْكَرِيمُ ۝ السَّمِيعُ ۝ لَا

إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ۝ الْكَبِيرُ ۝ السُّعَالُ ۝ لَا

إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ۝ خَالِقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۝

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَعْبُودُ بِكُلِّ مَكَانٍ ۝

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَذْكُورُ بِكُلِّ لِسَانٍ ۝

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَعْرُوفُ بِكُلِّ أَحْسَانٍ ۝

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَيْءٍ ۝

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِيْمَانًا بِاللَّهِ ۝

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَمَانًا مِنَ اللَّهِ ۝

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَمَانَةً مِنَ عِنْدِ اللَّهِ ۝

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ

إِلَّا بِاللَّهِ ۝ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا

تَعْبُدُ إِلَّا آيَاهُ ۝ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حَقًّا

حَقًّا ۝ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِيْمَانًا وَصِدْقًا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَعْبُدًا وَرِفْقًا ۝ لَا

إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَلَطُّفًا وَرِفْقًا ۝ لَا إِلَهَ

إِلَّا اللَّهُ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ ۝ لَا إِلَهَ إِلَّا

اللَّهُ بَعْدَ كُلِّ شَيْءٍ ۝ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

يُبْعَى رَبَّنَا وَيَفْعَى وَيَبُوتُ كُلُّ

شَيْءٍ ۝ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَيُّ

الْقَدِيمُ ۝ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَلِكُ

الْحَقُّ الْيَقِينُ ۝ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ

الْعَظِيمُ ۝ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ

الْكَرِيمُ ۝ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ

السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ

الْعَظِيمُ ۝ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَكْرَمُ

الْأَكْرَمِينَ ۝ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَرْحَمُ

الرَّاحِمِينَ ۝ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حَبِيبٌ

النَّوَابِيئِينَ ۝ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَاحِمٌ

الْمَسَاكِينَ ۝ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ هَادِي

الْبُصَلِيِّينَ ۝ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَلِيلٌ

الْحَائِرِينَ ۝ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَمَانٌ

الْحَائِفِينَ ۝ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عِيَاثٌ

الْمُسْتَعِيثِينَ ۝ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَيْرٌ

النَّاصِرِينَ ۝ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَيْرٌ

الْحَافِظِينَ ۝ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَيْرٌ

الْوَارِثِينَ ۝ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَيْرٌ

الْحَاكِمِينَ ۝ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَيْرٌ

الرَّازِقِينَ ۝ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَيْرٌ

الْقَاتِحِينَ ۝ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَيْرُ

الْغَافِرِينَ ۝ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَيْرُ

الرَّاحِمِينَ ۝ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ

وَصَدَقَ وَعْدُهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَ

أَعَزَّهُ جُنْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ

وَحْدَهُ وَلَا شَيْءَ بَعْدَهُ ۝ لَا إِلَهَ

إِلَّا اللَّهُ أَهْلُ الْبَيْتِ وَلَهُ الْفَضْلُ

وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ ۝ لَا إِلَهَ إِلَّا

اللَّهُ عَدَدَ خَلْقِهِ وَزِينَةَ عَرْشِهِ

وَرِضًا نَفْسِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ ○

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صَاحِبُ الْوَحْدَانِيَّةِ

الْفَرْدَانِيَّةِ الْقَدِيمِيَّةِ الْأَزَلِيَّةِ

الْأَبَدِيَّةِ لَيْسَ لَهُ ضِدٌّ وَلَا نِدْوٌ

لَا شِبْهٌ وَلَا شَرِيكٌ ○ لَا إِلَهَ إِلَّا

اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ

وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ

الْحَيُّ لَا يَبُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ

عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ○ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ○



هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ

وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ لَيْسَ كَمِثْلِهِ

شَيْءٌ ۝ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۝ حَسْبُنَا

اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ۝ نِعْمَ الْبَوَلَىٰ وَ

نِعْمَ النَّصِيرُ ۝ سُبَّارٌ غُفْرَانُكَ رَبَّنَا

وَإِلَيْكَ الْبَصِيرُ ۝ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ

لَنَا أَعْطَيْتَ وَلَا مَعْطَىٰ لَنَا مَنَعْتَ

وَلَا رَادٌّ لَنَا قَضَيْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا

الْبُجْدِ مِنْكَ الْبُجْدُ ۝ سُبْحَانَ رَبِّي

الْعَلِيِّ الْأَعْلَى الْوَهَّابِ ۝ سُبْحَانَ

رَبِّي الْعَلِيِّ الْأَعْلَى الْوَهَّابِ ۝

سُبْحَانَ رَبِّي الْعَلِيِّ الْأَعْلَى الْكَرِيمِ

الْوَهَّابِ ۝ يَا وَهَّابُ ۝ سُبْحَانَكَ مَا

عِبَادَتِكَ حَقٌّ عِبَادَتِكَ سُبْحَانَكَ

مَا عَرَفْنَاكَ حَقًّا مَعْرِفَتِكَ سُبْحَانَكَ

مَا ذَكَرْنَاكَ حَقًّا ذِكْرًا سُبْحَانَكَ مَا

شَكَرْنَاكَ حَقًّا شُكْرًا سُبْحَانَ اللَّهِ

الْأَبْدِيِّ الْأَبِيدِ ۝ سُبْحَانَ اللَّهِ

الْوَاحِدِ الْاِحْدِ ۝ سُبْحَانَ اللَّهِ الْفَرْدِ

الصَّغِيرِ ۝ سُبْحَانَ اللَّهِ رَافِعِ السَّمَوَاتِ

بِغَيْرِ عَمَدٍ ۝ سُبْحَانَ اللَّهِ الَّذِي

لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ۝

سُبْحَانَ اللَّهِ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ

يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اِحْدٌ ۝

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقَدُّوسِ ۝ سُبْحَانَ

ذِي الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوتِ ۝ سُبْحَانَ

ذِي الْعِزَّةِ وَالْعَظَمَةِ وَالْقُدْرَةِ

وَالْهَيْبَةِ وَالْجَلَالِ وَالْجَبَالِ وَالْكَمَالِ

وَالْبَقَاءِ وَالنَّشْأَةِ وَالضِّيَاءِ وَالْإِلَاءِ وَ

النُّعْمَاءِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْجَبْرِ بِسْمِ

الْمَلِكِ الْحَمْدُ الَّذِي لَا يَنَامُ وَلَا يَبُوءُ

سُبُوْحٌ قُدُّوسٌ رَبُّنَا وَرَبُّ الْمَلَائِكَةِ

وَالرُّوْحِ ۝ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ۝ وَلَا

حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ۝

اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ الْحَقُّ الَّذِي لَا

# إِلَهَ الْأَنْتَ

يَا اللَّهُ يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيمُ يَا مَلِكُ

يَا قُدُّوسُ يَا سَلَامُ يَا مُؤْمِنُ يَا مُهَيِّمُ

يَا عَزِيزُ يَا جَبَّارُ يَا مُتَكَبِّرُ يَا خَالِقُ

يَا بَارِئُ يَا مُصَوِّرُ يَا عَفَّارُ يَا قَهَّارُ

يَا وَهَّابُ يَا رَافِعُ يَا عَلِيمُ

يَا قَابِضُ يَا بَاسِطُ يَا خَافِضُ يَا رَافِعُ

يَا مُدَبِّرُ يَا مُدَلِّمُ يَا سَبِّعُ يَا بَصِيرُ

يَا حَكِيمُ يَا عَدَلُ يَا لَطِيفُ يَا خَبِيرُ

يَا حَلِيمٌ يَا عَظِيمٌ يَا عَفُورٌ يَا شَكُورٌ

يَا عَلِيٌّ يَا كَبِيرٌ يَا حَفِيظٌ يَا مَعِيثٌ

يَا حَسِيبٌ يَا حَلِيلٌ يَا كَرِيمٌ يَا رَقِيبٌ

يَا مُبِيبٌ يَا وَاسِعٌ يَا حَكِيمٌ يَا وَدُودٌ

يَا مُبِيدٌ يَا بَاعِثٌ يَا تَهْمِيدٌ يَا حَقٌّ

يَا وَكِيلٌ يَا قَوِيٌّ يَا مَتِينٌ يَا وَليٌّ

يَا حَبِيدٌ يَا مُجِيبٌ يَا مُبِيدٌ يَا مُعِيدٌ

يَا مُطِيبٌ يَا مَعِيثٌ يَا حَيٌّ يَا قَيُّومٌ

يَا وَاحِدٌ يَا مُجِدُّ يَا وَاحِدٌ يَا أَحَدٌ

يَا مُحَمَّدُ	يَا قَادِرُ	يَا مُقَدِّرُ	يَا مُقَدِّمُ
يَا مُؤَخِّرُ	يَا أَوَّلُ	يَا آخِرُ	يَا ظَاهِرُ
يَا بَاطِنُ	يَا وَالِي	يَا مُتَعَالِي	يَا بَرُّ
يَا بُرَّابُ	يَا مُنْعِمُ	يَا مُنْتَقِمُ	يَا عَفْوُ
يَا رُؤُوفُ	يَا مُلِكُ الْمُلْكِ	يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ	
يَا رَبُّ	يَا مُقْسِطُ	يَا جَامِعُ	يَا غَنِي
يَا مُغْنِي	يَا مُعْطِي	يَا مَانِعُ	يَا ضَارُّ
يَا نَافِعُ	يَا نُورُ	يَا هَادِي	يَا بَدِيعُ
يَا بَاقِي	يَا وَارِثُ	يَا شَيْدُ	يَا صَبُورُ

يَا صَادِقُ | يَا سَيِّدُ

يَا مَنْ تَقَدَّسَ عَنِ الْأَشْبَاهِ ذَاتُهُ

وَتَنَزَّاهَ عَنِ مُشَابَهَةِ الْأَمْثَالِ

صِفَاتِهِ وَيَا مَنْ دَلَّتْ عَلَى وَحْدَانِيَّتِهِ

آيَاتِهِ وَشَهِدَاتِ بَرُؤِيَّتِهِ مَصْنُوعَاتِهِ

وَإِحْدَازِ مَنْ قَلْبُهُ وَمَوْجُودِ لَامِنْ

عِلَّتِهِ ○ يَا مَنْ هُوَ بِالْبِرِّ مَعْرُوفٌ

وَبِالْإِحْسَانِ مَوْصُوفٌ مَعْرُوفٌ

بِالْغَايَةِ ○ وَمَوْصُوفٌ بِالْأَنْهَائَةِ ○



وَمَوْصُوفٌ بِإِلَانِهَايَةِ ۝ أَوَّلُ

قَدِيمٌ بِإِلَانِ ابْتِدَائِهِ ۝ وَأَخْرَجَكُمْ

بِلَا أَنْتَهَاءٍ ۝ وَعَفَرَ ذُنُوبَ الْمُذْنِبِينَ

كَمَا وَجَّهًا يَا مَنْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ

شَيْءٌ ۝ وَهُوَ السَّبِيْعُ الْبَصِيْرُ ۝ حَسْبُنَا

اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ۝ نِعْمَ الْهَوِي ۝ وَ

نِعْمَ النَّصِيْرُ ۝ يَا دَائِمًا بِإِلَانِ فَنَاءِهِ ۝

يَا قَائِمًا بِإِلَانِ زَوَالِ ۝ وَيَا مُدَبِّرًا بِإِلَانِ

وَزِيْرٍ سَهْلٍ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ وَإِلْدَيْنَا

كُلَّ عَسِيرٍ لَا أَحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ

أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ عَزَّ

جَارُكَ وَجَلَّ ثَنَاءُكَ وَتَعَدَّدَتْ

أَسْمَاؤُكَ وَعَظُمَ شَأْنُكَ وَلَا إِلَهَ

غَيْرُكَ يَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ يُقَدِّرُ

وَيُحْكِمُ مَا يَرِيدُ بِعِزَّتِهِ إِلَّا إِلَى

اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ كُلُّ شَيْءٍ

مَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ

تُرْجَعُونَ ○ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ

وَهُوَ السَّيِّعُ الْعَلِيمُ حَسْبُنَا اللَّهُ

وَكَفَى سِعِيرَ اللَّهِ لِمَنْ دَعَا لَيْسَ

وَرَاءَ اللَّهِ الْمُنْتَهَى مِنْ اعْتَصَمَ

بِاللَّهِ نَجَا سُبْحَانَ مَنْ لَمْ يَزَلْ

رَبًّا جَمًّا وَلَا يَزَالُ كَرِيمًا إِلَهِ

إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ

وَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ

وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَالْحَدُّ

بِاللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا إِلَهَ إِلَّا

اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ إِلَهًا وَاحِدًا

أَحَدًا صَدَدًا فَرْدًا وَتَرَا حَيًّا قِيَوْمًا

دَائِمًا أَبَدًا لَمْ يَخْذُ صَاحِبَةً وَلَا

وَلَدًا أَوْلَامٌ يَكُنْ لَهُ شَرِيكَ فِي

الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وِليٌّ مِّنْ لَّدُنْكَ

وَكَبِيرُهُ تَكْبِيرًا ۝ اللَّهُ أَكْبَرُ حَسْبُنَا

اللَّهُ لِيَدِينَنَا حَسْبُنَا اللَّهُ لِيُدِينَنَا ۝

حَسْبُنَا اللَّهُ لِيَا أَهْمَنَا ۝ حَسْبُنَا اللَّهُ

لِيَنْ بَغَى عَلَيْنَا ۝ حَسْبُنَا اللَّهُ لِيَنْ

حَسَدَانَا ۝ حَسْبُنَا اللَّهُ لِيَن كَادَانَا

بِسُوءِ ۝ حَسْبُنَا اللَّهُ عِندَ الْبَوْتِ ۝

حَسْبُنَا اللَّهُ عِندَ الْقَبْرِ ۝ حَسْبُنَا اللَّهُ

عِندَ الْمَسَائِلِ ۝ حَسْبُنَا اللَّهُ عِندَ

الْحَرَاطِ ۝ حَسْبُنَا اللَّهُ عِندَ الْحِسَابِ ۝

حَسْبُنَا اللَّهُ عِندَ الْبِيزَانِ ۝ حَسْبُنَا

اللَّهُ عِندَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ۝ حَسْبُنَا

اللَّهُ عِندَ الْإِقَاءِ ۝ حَسْبِيَ اللَّهُ الَّذِي

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ

اٰیِبٌ ۝ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ سُبْحَانَ

اللهِ مَا اعْظَمَ اللهُ ۝ لَا اِلٰهَ اِلَّا

اللهُ سُبْحَانَ اللهِ مَا احْمَدُ اللهُ ۝

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ سُبْحَانَ اللهِ مَا

اَكْرَمَ اللهُ ۝ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهُ

لَا شَرِيْكَ لَهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا

ذَكَرَهُ الَّذِيْنَ وَصَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ

كَلِمًا غَفَلَ عَنِ ذِكْرِهَا الْغَافِلُوْنَ ۝

رَضِينَا بِاللَّهِ تَعَالَى رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ

دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

نَبِيًّا وَرَسُولًا ۝ وَبِالْقُرْآنِ إِمَامًا

وَبِالْكَعْبَةِ قِبْلَةً وَبِالصَّلَاةِ فَرِيضَةً

وَبِالْمُؤْمِنِينَ إِخْوَانًا ۝ وَبِالصِّدِّيقِ

وَبِالْفَارُوقِ وَبِذِي النُّوْرَيْنِ وَ

بِالْبُرْتَضِيِّ أَيْمَةً رِضْوَانِ اللَّهِ

تَعَالَى عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ ۝ مَرْحَبًا

بِالصَّبَاحِ الْجَدِيدِ وَبِالْيَوْمِ السَّعِيدِ

وَبِالْمَلَائِكَةِ الْكَاتِبِينَ الشَّاهِدِينَ

الْعَادِلِينَ حَيَّاكُمَا اللَّهُ تَعَالَى فِي

عُرَّةٍ يَوْمَ نَاهَذَا الْتَبَا فِي أَوَّلِ

صَحِيفَتِنَا ۝ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ

الرَّحِيمِ ۝ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَرْسَلَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظَاهِرَهُ

عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ۝



عَلَىٰ هَذِهِ الشَّهَادَةِ نَحْيُ وَعَلَيْهَا وَ

نَبُوتُ وَعَلَيْهَا نَبِيعْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

تَعَالَىٰ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ

كُلِّهَا مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ بِسْمِ اللَّهِ

خَيْرِ الْأَسْمَاءِ ۝ بِسْمِ اللَّهِ رَبِّ الْأَرْضِ

وَرَبِّ السَّمَاءِ ۝ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي

لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ

وَلَا فِي السَّمَاءِ ۝ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ

مَا آمَاتْنَا وَإِلَيْهِ الْبِعْثُ وَالنُّشُورُ ۝

أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمَلِكُ بِدَعْوَةِ اللَّهِ وَالْعِزَّةِ

وَالْعِظَّةِ وَالْكَبْرِيَاءُ وَالْجَبْرُوتُ ۝

وَالسُّلْطَانُ وَالْبِرْهَانُ بِدَعْوَةِ اللَّهِ وَالْإِلَاءُ

وَالنُّعْمَاءُ بِدَعْوَةِ اللَّهِ وَاللَّيْلُ وَالنَّهَارُ بِدَعْوَةِ اللَّهِ وَ

مَا سَكَنَ فِيهِمَا بِدَعْوَةِ اللَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ۝

أَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ وَ

كَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ وَعَلَى دِينِ نَبِيِّنَا

مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى

مِلَّةِ آيَاتِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا مِّنْ سَلْبَانِ

مَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ صَلَوَاتُ

اللَّهِ تَعَالَىٰ وَمَلَائِكَتِهِ وَأَنْبِيَآئِهِ وَ

رُسُلِهِ وَحَمَلَةِ عَرْشِهِ وَجَمِيعِ خَلْقِهِ

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَأَلِيهِ وَأَصْحَابِهِ

عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ

وَبَرَكَاتُهُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ

يَا رَسُولَ اللَّهِ ۝ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ ۝ الصَّلَاةُ

وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَفِيَّ اللَّهِ

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَيْرَ خَلْقِ اللَّهِ

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنِ اخْتَارَهُ اللَّهُ

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنِ ارْسَلَهُ اللَّهُ

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنِ زَيَّنَّهُ اللَّهُ

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنِ شَرَّفَهُ اللَّهُ

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنِ كَرَّمَهُ اللَّهُ

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ عَظَمَهُ

اللَّهُ ۝ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا

سَيِّدَ الْمُرْسَلِينَ ۝ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

عَلَيْكَ يَا إِمَامَ الْمُتَّقِينَ ۝ الصَّلَاةُ

وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۝

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُنْفِعَ

الْمُذْنِبِينَ ۝ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

عَلَيْكَ يَا رَسُولَ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

صَلَوَاتُ اللَّهِ تَعَالَى وَمَلَائِكَتُهُ وَ

أَنْبِيَائِهِ وَرُسُلِهِ وَحَمَلَةَ عَرْشِهِ

وَجَمِيعِ خَلْقِهِ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

وَأَلِيهِ وَأَصْحَابِهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ

السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ۝

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي

الْأَوَّلِينَ ۝ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

فِي الْآخِرِينَ ۝ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

مُحَمَّدٍ فِي السَّلَامِ الْأَعْلَى إِلَى يَوْمِ

الْأَدِينِ ۝ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

فِي كُلِّ وَقْتٍ وَحِينٍ ۝ وَصَلِّ

عَلَىٰ جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ ۝

وَعَلَىٰ مَلَائِكَتِكَ الْبُقَرِيِّينَ وَعَلَىٰ

عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ۝ وَعَلَىٰ أَهْلِ

طَاعَتِكَ أَجْمَعِينَ وَارْحَمْنَا مَعَهُمْ

بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّحِيمِينَ ۝

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

اللَّهُمَّ يَا مَالِكَ الرِّقَابِ وَيَا مُفْطِرِ

الْأَبْوَابِ وَيَا مُسِيبَ الْأَسْبَابِ

هَيِّئْ لَنَا سَبِيلاً نَسْتَطِيعُ لَهُ طَلِبًا

اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مَشْغُولِينَ بِأَمْرِكَ

أَمِينٍ بَعْدَكَ أَلْسِينٍ مِنْ

خَلْقِكَ أَلْسِينٍ بِكَ مُسْتَوْحِشِينَ

عَنْ غَيْرِكَ رَاضِينَ بِقَضَائِكَ

مَا بَيْنَ عَلَى بِلَائِكَ قَانِعِينَ

لِعَطَائِكَ شَاكِرِينَ لِنِعْمَائِكَ

مُتَلَذِّدِينَ بِذِكْرِكَ فَرِحِينَ



بِكُنَايِكَ مُنَاجِيْنَ بِكَ فِي أَنْتَاءِ الْيَلِّ

وَأَطْرَافِ النَّهَارِ مَبْغِضِينَ لِلدُّنْيَا

وَمُحِبِّينَ لِلْآخِرَةِ مُشْتَاقِينَ إِلَى

لِقَائِكَ مُتَوَجِّهِينَ إِلَى جَنَابِكَ

مُسْعِدِينَ لِلْبُوتِ رَبَّنَا وَإِنَّا مَا

وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تَخْزِنَا

يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تَخْلِفُ الْبِعَادَ

اللَّهُمَّ اجْعَلِ الْتَوْفِيقَ رَبِّقِنَا وَ

الضَّرَاطَ السَّعِيْمَ طَرِيقَنَا ۝

اللَّهُمَّ وَصِلْنَا إِلَى مَقَاصِدِنَا وَوَيْبِ

عَيْنِنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝

اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ امْسَيْنَا وَ

بِكَ نَحْيُ وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ۝

اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ

وَالشَّوْقِ إِلَى لِقَائِكَ ۝ اللَّهُمَّ امْرَأَنَا

الْحَى حَقًّا وَارْزُقْنَا إِيْبَاعَهُ وَارِنَا

الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ ۝

اللَّهُمَّ ارِنَا حَقَائِقَ الْأَشْيَاءِ كَمَا هِيَ

تَوْفِقَنَا مُسْلِمِينَ وَالْحَقَّ بِالصَّالِحِينَ

وَادُّعَنَا شَرَّ الظَّالِمِينَ وَشَارِكُنَا

فِي دُعَاءِ الْبُؤْمِنِيِّينَ وَبِيَهْتَا عَن

نَوْمَةِ الْغَافِلِينَ وَارْزُقْنَا شِفَاءَ

سَيِّدِ الْبَرَسَلِيِّينَ وَادْخِلْنَا الْجَنَّةَ

بِسَلَامٍ اٰمِنِيْنَ وَاخْشُرْنَا مَعَ

الْمُتَّقِيْنَ وَخَلِّصْنَا مِنَ الشَّرِيَا

مُجِيْرٍ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِاُمَّةِ مُحَمَّدٍ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

اللَّهُمَّ ارْحَمْ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ○ اللَّهُمَّ انصُرْ أُمَّةَ

مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ○

اللَّهُمَّ افْتَحْ لِأُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ○ اللَّهُمَّ اصْلِحْ

أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ○

اللَّهُمَّ فَرِّجْ عَنِ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ○ اللَّهُمَّ كَرِّمْ أُمَّةَ

مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ○

اللَّهُمَّ عَظْمَ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۝ اللَّهُمَّ تَجَاوَزْ عَنَّا

أُمَّةً مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اللَّهُمَّ يَا حَبِيبَ التَّوَّابِينَ تَبِّ

عَلَيْنَا وَيَا أَمَانَ الْخَائِفِينَ أَمَّنَّا وَيَا

دَلِيلَ السُّحُورِيِّينَ دُلَّنَا وَيَا هَادِيَ

الْبُضْلِيِّينَ اهْدِنَا وَيَا غِيَاثَ

السُّتَيْغِيثِينَ اغْنِنَّا وَيَا رَجَاءَ

الْمُنْقَطِعِينَ لَا تَقْطَعْ رَجَاءَنَا وَيَا

رَاحِمِ الْغَاصِيَيْنِ اِرْحَمْنَا وَيَا غَافِرَ

الْمُذْنِبِيْنَ اَعْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكُفْرَنَا

سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ ۝ اَللّٰهُمَّ

اعْفِرْ ذُنُوبَنَا اللّٰهُمَّ اسْتُرْ عِيُوْبَنَا

اللّٰهُمَّ اشْرَحْ صُدُوْرَنَا اللّٰهُمَّ احْفَظْ

قُلُوْبَنَا ۝ اَللّٰهُمَّ نُوْرِ قُلُوْبِنَا اللّٰهُمَّ

يَسِّرْ اُمُوْرَنَا اللّٰهُمَّ حَصِّلْ مُرَادَنَا

اللّٰهُمَّ بَيِّرْ تَقْصِيْرَنَا اللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا

تَخَافُ يَا خَفِيَّ الْاَلْطَافِ اللّٰهُمَّ

اغفر لنا و لوالدينا و لساكنينا و

لإستاذينا و لإصحابنا و لإحبائنا

و لعشائرننا و لقبائنا و لمن له حق

علينا و لجميع أمة محمد عليه

الصلوة و السلام و قنارئنا شرما

قضيت و قنأ عذاب النار و عذاب

القبر و عذاب يوم القيامة و احسننا

مع التقيين و الأبرار اللهم بحرمه

هذه الأوراد الفتحية افتح لنا

أَبْوَابِ الْعِنَايَاتِ وَالْكَرَامَاتِ وَ

وَقُنُوتِ الطَّاعَاتِ وَالْعِبَادَاتِ وَ

أَحْفَظْنَا مِنَ الْآفَاتِ وَالْبَلِيَّاتِ ۝

وَبَارِكْ لَنَا فِي الرِّزْقِ وَالْعُمُورِ

الْحَسَنَاتِ ۝ اللَّهُمَّ احْفَظْنَا يَا بَرِّئُ

مِنْ حَمِيصِ الْبَلَايَا وَالْأَمْرَاضِ ۝

وَصَلِّ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ

مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ ۝





# خصائص عظمیٰ

اللہ سے سزا  
صلیٰ علیہ وسلم

● حضور علیہ السلام کا نور تمام مخلوقات سے پیدائش و پیمبری میں پہلے ہے۔

● حضور علیہ السلام پر ایمان لانے کا عہد و پیمان اللہ تعالیٰ نے پیمبروں سے لیا۔

● حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے اقرار میں ہلی کہا۔

● حضور علیہ السلام کے لیے حضرت آدم علیہ السلام اور تمام مخلوقات پیدائی گئی۔

● حضور علیہ السلام ہی کا اسم شریف مدائنہ درود شریف کے ساتھ ہر ساعت یاد کرتے ہیں۔

● حضور علیہ السلام ہی کا اسم شریف عرش مجید پر اور آسمان اور

جنت میں لکھا ہوا ہے۔

● حضور علیہ السلام ہی کا اسم شریف اذان و نماز کے آخر التہیات میں یاد کرنے کا حکم ہے۔

● حضور علیہ السلام ہی کی خوشخبری کتب سابقہ میں انبیاء سابقین اولوالعزم کی زبانی دی گئی۔

● حضور علیہ السلام ہی کی پیدائش دنیوی کے وقت شیاطین آسمانوں سے روکے گئے۔

● حضور علیہ السلام کا شوق الصدقین بارہ ہوا۔

● حضور علیہ السلام ہی کی پشت مبارک پر مہر نبوت تھی اور انبیاء کے دلہنے ہاتھ میں ہے۔

● حضور علیہ السلام ہی کے بہت اسماء شریفہ لطیفہ اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ کے ساتھ مشترک ہیں۔

● حضور علیہ السلام ہی کا اسم شریف احمد ہے پہلے کسی کا نام نہیں ہوا۔

● حضور علیہ السلام ہی پر ملائکہ مقربین سلام کیا کرتے تھے۔

● حضور علیہ السلام ہی تمام نبی آدم سے عقل معاش و معاد میں زائد تھے۔

● حضور علیہ السلام ہی تمام بنی آدم سے حقیقی حُسن میں زاید تھے۔  
 حضرت یوسف علیہ السلام کا حُسن گویا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ  
 وسلم کے حقیقی حُسن کا ایک حصہ تھا۔

● حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی کو تین بار آغاز نزول وحی میں حضرت  
 جبرائیل علیہ السلام نے بھیجا۔

● حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اُن  
 کو اصلی صورت میں دیکھا۔

● حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی کے وجود باجود کی برکت سے کہانت  
 اور شیاطین کا چوری سے آسمانوں میں جانا بند کیا گیا۔

● حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی سے وعدہ عصمت و حفاظت شروع  
 ایذا کفار سے اللہ تعالیٰ نے کیا۔

● حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی سے معراج جسمانی سے تمام مقام قاب  
 قوسین مشرف ہوئے۔

● حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی نے پیغمبروں کی امامت کرائی بلکہ  
 شب معراج میں فرشتوں کو بھی۔

● حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی آنکھوں سے  
 جنت اور دوزخ دکھلائے۔

● حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی نے اللہ تعالیٰ کا دیدار جسمانی آنکھوں سے کیا۔

● حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی کے لشکرِ ظفر پیکر میں فرشتوں کا بڑا گروہ داخل ہو کر مہر و معاون ہوا۔

● حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی وہ اُمّی ہیں جن کو پیغمبری اور کتاب ملی  
● حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی کی کتاب کو تحریف سے محفوظ رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا۔

● حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی کی کتاب کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے امور کا جامعہ بنایا کہ اس کے ہوتے اور کسی آسمانی کتاب کی حاجت نہیں۔

● حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی کی کتاب کے حفظ کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ نے آپ کی اُمت کو دی اور حفظ آسان کر دیا۔ کہ بچے بھی اتنی بڑی کتاب کو حفظ کر لیتے ہیں۔

● حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی کی کتاب ٹکڑے ٹکڑے بتدریج صحیح مصاحح و قائل نازل ہوئی۔ سات قرأتوں پر عرب کی ہر لہلی کے موافق  
● حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی کو عرش کا خزانہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔

● حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی کو اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ - سورہ فاتحہ -  
آیتہ الکرسی - سورہ بقرہ پچھلی آیتیں عطا کیں۔

● حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی کو اللہ تعالیٰ نے دائمی معجزہ یعنی  
قرآن پاک عطا فرمایا۔

● حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی کو اللہ تعالیٰ نے کثرت معجزات  
عطا کئے۔

● حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی کو اللہ تعالیٰ نے جمع المعجزات حضرت  
انبیاء سابقین کے عطا کیے۔ کوئی بعینہ کوئی بمثلہ بلکہ علاوہ ان کے  
اور معجزات خاصہ بھی مثل شق القمر - پتھر کا سلام کرنا - ستون کا انحراف  
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فراق میں رونا - انگلیوں میں سے دودھ  
اور پانی کا نکلنا۔

● حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی خاتم النبیین ہیں۔ آپ کے بعد کسی پیغمبر  
کا ہونا ممکن نہیں۔ لہذا اب جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ مردود اور  
کافر ہے۔ آپ ہی کی شریعت قیامت تک باقی ہے۔

● حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی تمام جن وانس کے پیغمبر ہیں۔  
● حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی کا وجود تمام جہان کے واسطے رحمت  
ہے۔ یہاں تک کہ کفار کے لیے بھی اس جنت سے کہ دنیوی عذاب

اُن سے اٹھا لیا گیا۔

● حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی عمر کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے  
● حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اعضاء مبارکہ کی اللہ تعالیٰ نے جدا  
جدا تعریف کی۔ کہیں زبان کی، کہیں دل کی، کہیں چہرہ کی، کہیں  
آنکھ کی۔

● حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی کو دونوں مرتبے حبیب اور خلیل  
کے عطا ہوئے۔

● حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو دونوں بزرگیاں کلام الہی اور ویدار الہی  
کی نصیب ہوئیں۔

● حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو شریعت اور حقیقت کا مجموعہ عطا  
ہوا۔ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام حقیقت کی تعلیم پانے کیلئے  
حضرت نضر علیہ السلام کے پاس گئے۔

● حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی کا رعب و ودبہ آپ کے اعدا پر  
اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا تھا۔ جہاں کچھ صحابہ چلے جاتے تھے وہیں  
ایک زلزلہ اور تہلکہ کفار میں پڑ جاتا تھا۔

● حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی کے پاس حضرت اسرافیل علیہ السلام آئے  
● حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی کو اللہ تعالیٰ نے وصفِ ظلم میں پہنچیت

- مجموعی انبیاء سابقین پر فضیلت بخشی۔
- حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی کے سامنے امت کا اعمال نامہ پیر اور جمعرات کو پیش کیا جاتا ہے۔
- حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی کا ہمزاد مسلمان ہو گیا تھا۔
- حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی کی ازواج مطہرات تمام عورتوں سے افضل ہیں۔
- حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی کے صحابہ سوائے پیغمبروں کے سب علماء سے بہتر ہیں۔
- حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی کا شہر مدینہ منورہ تمام روئے زمین کے شہروں سے بہتر ہے۔
- حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی کا حال قبر میں بعد سوال ربوبیت اللہ کے میت سے پوچھا جائے گا۔
- حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی سے ملک الموت نے وقت وفات اذن چاہا۔
- حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی کی ازواج مطہرات امت پر حرام ہو گئیں۔
- حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی کا روضہ عرش اور کعبہ کی طرح افضل ہے۔

● حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی کا ستر کسی نے عمدًا نہیں دیکھا۔  
 ● حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی کا برابر زمین نکل جاتی تھی۔  
 ● حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی کی اُمت کے واسطے غنیمتیں حلال ہیں  
 ● حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی کی اُمت کے واسطے تمام روئے  
 زمین مسجد ہو گئی۔ یعنی جس جگہ چاہیں نماز پڑھ لیں۔ (بخلاف اگلی  
 اُمتوں کے)

● حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی کی اُمت کے واسطے بجائے پانی کے  
 خاک پاک کرنے والی تیمم میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے مقرر ہوئی۔  
 ● حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی کی اُمت کے لیے پانچوں نمازیں  
 فرض ہوئیں۔

● حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی کی اُمت کے لیے اذان اور تکبیر مشروع  
 ہوئی۔

● حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی کی اُمت کے واسطے السلام علیکم تحیت و  
 تحفہ مشروع ہوا۔

● حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی کی اُمت کے واسطے جمعہ اور اس  
 میں ساعتِ اجابت مقرر ہوئی۔

● حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی کی اُمت کے واسطے رمضان کا مہینہ



روزوں کے لیے مقرر ہوا۔

● حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی کی اُمت روزہ دار کے لیے ملائکہ حکم ربانی استغفار کرتے ہیں۔ جب تک وہ افطار کریں۔

● حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی کی اُمت کے لیے درِ رحمت آخر شب میں کھلتا ہے جو کوئی دعا مانگے اس کی دعا قبول ہوتی ہے اور اللہ پاک اس پر رحم فرماتا ہے۔

● حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی کی اُمت کے لیے سحری کھانا اور بعد غروب آفتاب کے افطار کرنا مشروع ہے۔

● حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی کی اُمت کے واسطے کھانا پینا مجاہدت کرنا غروب آفتاب سے صبح تک روزہ دار کو درست ہوئے۔

● حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی کی اُمت کے لیے لیلة القدر اپنی فضیلت کے ساتھ مقرر ہوئی یعنی اس میں عبادت کرنے والے کو ہزار مہینہ سے زائد ثواب ملتا ہے۔

● حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی کی اُمت کے واسطے عرفہ کا روزہ دو سال کے گناہوں کا کفارہ ہوا۔

● حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی کی اُمت کے لیے عاشورہ کا روزہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہوا۔

● حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی کی اُمت کے لئے ہے اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ

● حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی کی اُمت کے لئے ہے اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ

● حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی کی اُمت کے لئے ہے اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ

● اُمت کے لئے ہے اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ

● اُمت کے لئے ہے اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ

● اُمت کے لئے ہے اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ

● اُمت کے لئے ہے اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ

● اُمت کے لئے ہے اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ

● اُمت کے لئے ہے اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ

زکوٰۃ میں دینے کا حکم منسوخ ہو گیا۔

● حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی کی اُمتِ مرسومہ کے لیے چار عورتوں کو نکاح میں جمع کرنا حلال ہوا۔

● حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی کی اُمتِ مرسومہ کے مردوں کو غیر مذہب اہل کتاب عورتوں سے نکاح کرنا حلال ہوا۔

● حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی کی اُمتِ مرسومہ کے لیے اپنی مالِ فتنہ عورت سے بجز وطی کے اور طرح کی مخالفتِ حلال ہوتی۔

● حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی کی اُمتِ مرسومہ کے لیے قصاص اور قصاص میں اختیار دیا گیا۔ بخلاف اہم سابقہ کے کہ ان کے لیے فقط قصاص ہی تھا۔

● حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی کی اُمتِ مرسومہ پر پتھر پھینکا جرم ہوا۔

● حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی کی اُمتِ مرسومہ پر جاننا چیز کی تصویر کا رکنا جرم ہوا۔

● حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی کی اُمتِ مرسومہ پر مسکرات کا پینا جرم ہوا۔

● حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی کی اُمتِ مرسومہ کا اجماعِ ظاہری اور فضیلت ہے۔

● حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی کی اُمتِ مرسومہ کے علماء کے صحابی کا اختلافِ رحمت کا موجب ہے۔ پہلی اُمتوں کا اختلافِ موجب عقاب ہے۔

● حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی کی اُمتِ مرسومہ کا حلال کھانا پینا عبادت میں

داخل ہے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی کی اُمت کو دُنیا میں نیکی کا ثواب ملتا ہے اور آخرت کے لیے ذخیرہ رہتا ہے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی کی اُمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھوک سے ہلاک نہ کرنے کا وعدہ فرمایا۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی کی اُمت کے لیے مدد دینے اور آخر الامر دشمن یعنی کفار پر غالب کرنے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی کی اُمت عمر و عمل میں کم اور اجر و ثواب میں زیادہ ہے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی کی اُمت حق گوئی سے خالی نہ رہے گی پہلی اُمتیں بالکل حق پرستی سے خالی ہو جاتی تھیں کہ اور پیغمبر آکر راہ حق ان کو بتاتے تھے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی کی اُمت میں اقطاب و اوتاد و سجاوہ دل ہوتے ہیں۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی کی اُمت ہے جس کا بزرگ ایک بڑے بڑے ذی شان پیغمبر کا امام بنے گا یعنی امام مہدی علیہ السلام حضرت علیؑ کی اولاد کے امام ہوں گے۔

- حضور علیہ السلام ہی کی امت کو اللہ تعالیٰ نے امت و سبط اور خیر امت القاسم
- اور خطبات اہل بیت سے مشرف فرمایا اور فرمایا: *وہو علیہ السلام*
- حضور علیہ السلام ہی پہلے زمین یعنی قبر مبارک میں آئے برآمد ہو کر
- امیڈان قیامت میں نشر لیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا:
- حضور علیہ السلام ہی کو سب سے پہلے صوفی قیامت سے افاقہ ہوگا
- حضور علیہ السلام ہی کی اولاد میں قبر مبارک آتے ہیں اور قیامت تک
- انہیں شرف فرماتے ہیں ان کے کتب الفیہ لفاہن میں آئے
- حضور علیہ السلام ہی کا اسم شریف امیڈان قیامت میں پہلے پکارا
- جائے گا۔
- حضور علیہ السلام ہی برحق پروردگار قیامت میں سوا اللہ کے نہیں ہونگے
- حضور علیہ السلام ہی عمر کثرت میں مجید کے حق والے ہیں جو ان کے کبرے ہوں گے
- حضور علیہ السلام کو مقام محمود و محققین سب سے عطا ہوگا جہاں آپ
- اور ان کے بھائی و اقربا عین کرم درساہ و القیامہ میں
- حضور علیہ السلام ہی کے ہاتھ میں لواء الجنت ہوگا۔ جن کے
- سب سے نیچے جنات اور اہل طہارت ہی لہو و لہو کے ہوں گے
- حضور علیہ السلام ہی پر ان کے لیے سب سے پہلے شفاعت عظمیٰ
- کریں گے۔ گے اور ان کے ہاتھ میں لواء الجنت ہوگا

- یہاں حضور علیہ السلام ہی سید انبیاء کے نام اور خطیب المومنین کے
- حضور علیہ السلام ہی کو میدان قیامت میں پہلے بلوا کر کے کا پھر
- اگے لے کر جنت کے لئے لائے گا اور دیا جائے گا کہ
- حضور علیہ السلام ہی سید انبیاء کے پہلے ویدار الہی سے مشرف ہونگے
- حضور علیہ السلام ہی سید انبیاء کے پہلے پھر اطراف سے گذریں گے
- حضور علیہ السلام ہی کے چہرہ مبارک اور سر مبارک کے ہر ہر بال
- تک چین نور سے اور نور کا باقی ابتداء کے واسطے صرف دو نور ہوں گے
- حضور علیہ السلام ہی کی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پھر اط
- راف کے گزرنے کے وقت اہل محشر کو آنکھیں ٹھکانے کا حکم ہوگا
- لا حضور علیہ السلام ہی سید انبیاء کے پہلے جنت کا اور آوازہ کھڑے ہیں
- ان کے لئے اور ان کے لئے اور تیسرے پہلے آیت ہوگی
- حضور علیہ السلام ہی کو جنت کے دروازے کے اختیار اور جنت الہی
- جنت الہی ان کے لئے ہے ان کے لئے ہے ان کے لئے ہے
- حضور علیہ السلام ہی کو جنت کے دروازے میں پہلے بلوا کر کے
- ان کے لئے اور ان کے لئے اور تیسرے پہلے آیت ہوگی
- حضور علیہ السلام ہی کے لئے جنت کے دروازے کی عیسیٰ کے
- ساتھ تعبیر کیے گئے ہیں۔ حسن لکھنؤ پبلس

حضرت علیہ السلام کے منبر اور قبر شریف کے مابین کو حنبت کی کیاری  
فرمایا گیا۔

حضرت علیہ السلام کے حکم رسانی پر گواہی طلب کیے جائیں گے اور  
پیغمبروں سے گواہی طلب کیے جائیں گے۔

حضرت علیہ السلام ہی کی اُمت مرحومہ آپ کے بعد اور باقی سب سے  
پہلے قبر سے اٹھائی جائے گی۔

حضرت علیہ السلام ہی کی اُمت کے لوگ قیامت کے دن چمکتی  
پیشانی محشر میں کھڑے ہوں گے۔

حضرت علیہ السلام ہی کی اُمت کے واسطے دو نور ہوں گے مانند  
پہلے پیغمبروں کے اور اُمتوں کے لیے صرف ایک ہی نور ہوگا۔

حضرت علیہ السلام ہی کی اُمت کے چہروں میں سجد کی نشانی ہوگی۔  
حضرت علیہ السلام ہی کی اُمت کے آگے پلصراط پر نور دوڑتا ہے گا

حضرت علیہ السلام ہی کی اُمت کے دلہنے ہاتھوں میں اعمال نامے  
قدرت الہی سے اڑ کر آجائیں گے۔

حضرت علیہ السلام ہی کی اُمت قبروں میں جلتے وقت گنہگار ہوگی  
اور نکلنے وقت گناہوں سے پاک ہوگی۔ بسبب استغفار و اصلاح

نواب پس ماندگان کے۔

● حضور علیہ السلام ہی کی اُمت کا سب سے پہلے حساب ہو کر جنت میں  
دخول ہوگا۔

● حضور علیہ السلام ہی کی اُمت کے اعمال خیر کے پلٹے بھاری ہوں گے  
حضور علیہ السلام ہی کی اُمت پہلے انبیاء کی گواہ ہوگی۔

● حضور علیہ السلام ہی کی اُمت میں سے ستر ہزار شخص بلا حساب و کتاب  
بہشت میں داخل ہوں گے۔

● حضور علیہ السلام پر نماز تہجد واجب تھی۔ اُمت مرحومہ پر واجب نہیں  
حضور علیہ السلام ہی پر سواک کرنا واجب تھا۔ اُمت مرحومہ پر واجب  
نہیں۔ صرف سنت ہے۔

● حضور علیہ السلام پر باوصف صاحب نصاب نہ ہونے کے قربانی  
واجب تھی۔ پہلے انبیاء اور ان کی اُمتوں پر واجب نہیں تھی۔ اُمت  
مرحومہ کے اغنیاء اور صاحب نصاب پر واجب ہے نہ فقراء پر۔

● حضور علیہ السلام ہی پر مشورہ کرنا واجب تھا۔

● حضور علیہ السلام ہی پر فجر کی دو رکعت سنت واجب تھی۔ اُمت پر نہیں  
حضور علیہ السلام پر حجہ کا غسل واجب تھا۔

● حضور علیہ السلام ہی پر چار کعتیں زوال کے وقت پر واجب تھیں

● حضور علیہ السلام ہی پر واجب تھا کہ تنگ دست مسلمان کا فرض ادا فرمائیں



● حضور علیہ السلام ہی پر بدون کسی طرح ان کے خلیل کی نہایت خشوع کے ساتھ نماز پڑھنی واجب تھی۔

لا ابرار

● حضور علیہ السلام ہی پر شانہ حق باوجود اعلیٰ شرف خلیل کے ہمیشہ

جلوہ کے ہوتا تھا لیکن اچھتہ ان کے مسالینہ

● حضور علیہ السلام ہی سے کسی حالت میں نماز روزہ اور باقی احکام معاف

نہیں ہوتے تھے۔

● حضور علیہ السلام ہی کو رجم کی حالت میں دنیا کی پریشانی نہیں رہتی

یہاں پر بھی نہ آتا۔

● حضور علیہ السلام پر زکوٰۃ کھانا حرام تھا باقی بنی ہاشم پر بھی آپ

کو زکوٰۃ کی قربانیت کی جہت سے حرام ہے بلکہ مسالینہ

● حضور علیہ السلام ہی پر بدلو اور جزیر کھانا حرام تھا تاہم کیواسے

پیارے اور سب سے زیادہ

● حضور علیہ السلام پر عموماً قصداً شعر گوئی حرام تھی بلکہ

حضور علیہ السلام ہی پر کتا لہر کرنا اور بچہ کے ساتھ نیکار ہونا حرام تھا

● حضور علیہ السلام کو تباہی و بربادی سے بچنے کے لیے بدو اور جدید و فنو کے نماز

پڑھنے پر بھی ممانعت تھی بلکہ ان کے لیے مسالینہ

● حضور علیہ السلام کو حضرت کنانہ کے بعد پانچویں نبی کے بعد پانچویں نبی کے

● حضرت علیؓ علیہ الصلوٰۃ والسلام سے کوئی چیز بھی نہ لینی چاہئے اور نہ ہی کوئی چیز لے کر دینا چاہئے۔  
دست تھا۔ چنانچہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گویا میں تمہارا کرتی

نہیں دے گا۔ یہ سب کچھ ہیبت سے لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہی سہی۔

● حضرت علیؓ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ان کا شہ کی نماز پڑھنی اور مباح اچھی۔ چنانچہ  
شاہی شاہی شاہی کی نماز پڑھنے کے بعد حضرت علیؓ علیہ الصلوٰۃ والسلام  
نے مدینہ منورہ میں پڑھنی۔ یہ سب کچھ لکھا ہے۔ لفظ صبیحہ

● حضرت علیؓ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو صوم وصال یعنی لڑکے کا روز مباح تھا۔

● حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو کبھی کبھی غصہ بھی ہوتا تھا۔ کبھی کبھی غصہ ہونے کے بعد بدون

لگا کر ان کا دل بوجھتا تھا۔ یہ سب کچھ لکھا ہے۔ لفظ صبیحہ

● حضرت علیؓ علیہ الصلوٰۃ والسلام سے کوئی چیز بھی نہ لینی چاہئے اور نہ ہی کوئی چیز لے کر دینا چاہئے۔

میں بیٹھا مباح تھا۔ لفظ صبیحہ

● حضرت علیؓ علیہ الصلوٰۃ والسلام سے کوئی چیز بھی نہ لینی چاہئے اور نہ ہی کوئی چیز لے کر دینا چاہئے۔

مباح تھا۔ کبھی کبھی غصہ بھی ہوتا تھا۔ کبھی کبھی غصہ ہونے کے بعد بدون

● حضرت علیؓ علیہ الصلوٰۃ والسلام سے کوئی چیز بھی نہ لینی چاہئے اور نہ ہی کوئی چیز لے کر دینا چاہئے۔

● حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بیچ وقت نماز کا حکم تعظیم ہے الہی ہوا۔

● حضرت علیؓ علیہ الصلوٰۃ والسلام سے کوئی چیز بھی نہ لینی چاہئے اور نہ ہی کوئی چیز لے کر دینا چاہئے۔

یہ سب کچھ لکھا ہے۔ لفظ صبیحہ

● حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی پر حاضر وقت کو کسی ظالم کے ظلم کے وقت جان نثاری کرنا فرض تھا۔

● حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی پر التجیات میں مخاطب کر کے سلام بھیجنا اور السلام علیکم ایہا النبیؐ کہنا مامور ہے۔

● حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی کے بلانے پر نماز کی حالت میں حاضر ہونا واجب تھا۔ باوجود نہ فاسد ہونے نماز کے۔

● حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی کے آگے چلنا بے اعتنائی سے اور آپ کے حضور میں پکار کر بولنا حرام تھا۔

● حضور علیہ السلام کو حجروں کے پیچھے سے اور دُور سے پکارنا حرام تھا۔

● حضور علیہ السلام ہی کا خون اور پٹیاب اور پاخانہ پاک تھا۔ بلکہ موجب شفا تھی۔

● حضور علیہ السلام ہی کے موٹے مبارک بال اتفاق پاک تھے۔

● حضور علیہ السلام ہی ہر مکروہ کام سے پاک تھے۔

● حضور علیہ السلام ہی کی ازواج مطہرات میں سے کسی کو قذف کرنا موجب قتل ہے۔

● حضور علیہ السلام کی صاحبزادی پر دوسرا نکاح حرام تھا۔

● حضور علیہ السلام ہی کی مہر کے کلمات گندہ اور کسی کو اپنے مہر میں

کنہہ کرنا حرام ہے۔

حضرت علیہ السلام ہی اپنے آگے اور پیچھے برابر دیکھتے تھے۔

حضرت علیہ السلام ہی رات کو دن کی طرح اور اندھیرے میں بدوشنی کی طرح دیکھتے تھے۔

حضرت علیہ السلام کا آبِ دہن کھارے پانی کو میٹھا کر دیتا ہے۔  
حضرت علیہ السلام ہی کی بغل مبارک خوشبو دار سفید رنگ تھی،  
خوشبو کی جگہ بدبو اور گورے رنگ کی جگہ کالا رنگ کبھی نہیں  
ہوتا تھا۔

حضرت علیہ السلام ہی کی چشم مبارک آرام کے وقت بغیر چشم دل کے  
سوتی تھی۔ یعنی آپ کا سونا آرام کا تھا نہ غفلت کا۔  
حضرت علیہ السلام ہی کا پسینہ مبارک نہایت خوشبو دار تھا۔  
حضرت علیہ السلام چلنے بیٹھنے کے وقت تمام لوگوں سے اونچے  
معلوم ہوتے تھے۔

حضرت علیہ السلام ہی کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا۔  
حضرت علیہ السلام ہی کے جامہ مبارک پر کبھی کبھی نہیں بیٹھی تھی  
حضرت علیہ السلام ہی کے لیے چلتے وقت زمین سکر جاتی تھی  
حضرت علیہ السلام ہی کو عیالیں آدمی کی قوت عنایت ہوتی تھی۔

حضور علیہ السلام

● حضور علیہ السلام ہی کی نسل میں حضرت آدم علیہ السلام بھی  
● نبی مبعوث ہوئے ہیں اور ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے

● حضور علیہ السلام ہی کی پیدائش کے وقت تمام زمین کے  
● تمام جانداروں نے اس کی تعظیم کی اور ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے

● حضور علیہ السلام ہی کی پیدائش کے وقت سرچرخہ ہوئے اور  
● زمین پر ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے

● حضور علیہ السلام ہی کا جھولا فرشتے جھولتے تھے  
● حضور علیہ السلام ہی کے چاند جھولی میں بائیں کرنا اور آپ

● اشارہ کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے  
● اشارہ کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے

● حضور علیہ السلام ہی کی جانب بیوہ دار اور سائیدہ کا درخت بھگ  
● جاتا تھا جب آپ اس طرف متوجہ ہوتے تھے تو وہ

● حضور علیہ السلام ہی کو حدائق کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے  
● ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے

● حضور علیہ السلام ہی کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے  
● ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے

● حضور علیہ السلام ہی بخیر دفن کے تین روز تک رکھے گئے۔ بخلاف  
● دیگر لوگوں کے کہ ان کو جلد ہی دفن کر دینے کا حکم ہے۔

● حضور علیہ السلام ہی کی لحد مبارک میں چادر بچھائی گئی تھی۔

● حضور علیہ السلام ہی کی وفات شریف کے دن پانچ روئے زمین پر  
● اندھیرا ہو گیا۔

● حضرت اباناب مبارک

● حضور علیہ السلام ہی کی قبر شریف پر ایک فرشتہ اس خدمت پر  
● مامور ہے کہ دروئے شریف بھینچنے والوں کے دروئے شریف آپ

● کو پہنچاتا ہے۔ پندرہ سال تک یہ واقعہ ہوتا رہا۔  
● حضور علیہ السلام ہی اپنے دل کے دروئے شریف کو بلا واسطہ خود

● کو پہنچاتے تھے۔ یہ ایک عادت تھی کہ حضور علیہ السلام  
● حضور علیہ السلام ہی کی خدمت میں آتے اور آپ کے اعمال میں

● نظر کیا کرتے۔ یہ حالت تک تین دن تک ہوتی تھی۔  
● حضور علیہ السلام ہی قبر شریف میں اپنی اہلیہ و مرہومہ کے واسطے

● بخشش چاہتے ہیں۔

● حضور علیہ السلام کے وجود مبارک کو ہر ایک قبر میں میت پر حاضر  
● کر کے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کون ہے؟

● حضور علیہ السلام ہی کی زیارت خواب میں واقعی زیارت ہے اس لیے

کہ شیطان کو مجال نہیں کہ آپ کی شکل بنے۔  
 حضور علیہ السلام ہی کے حکم کا امتثال جو خواب میں ہوا ہو واجب

ہے۔  
 حضور علیہ السلام ہی کی احادیث شریفہ کا پڑھنا مانند قرآن شریف  
 کے موجب ثواب و برکت ہے۔

حضور علیہ السلام ہی کے اسم مبارک کے ساتھ نام رکھنا برکت دیوبند  
 انرویہ کا موجب ہے اور باعث ثواب۔

حضور علیہ السلام ہی کی حدیث شریف پڑھتے وقت پڑھنے والے کو  
 کسی کی تعظیم کے واسطے اٹھنا نہیں چاہیے۔

حضور علیہ السلام کی حدیث شریف کے حامل حضرات محدثین کے  
 چہرے قیامت کو روشن و نورانی ہوں گے۔

حضور علیہ السلام ہی کی زیارت سے حالت ایمان میں گو ایک لمحہ  
 ہی صحابی کا درجہ حاصل ہوتا تھا۔



# مشنق بک کارنر

الکریم مارکیٹ، اُردو بازار، لاہور